



**THE
SENATE OF PAKISTAN
DEBATES
OFFICIAL REPORT**

Saturday, January, 8, 1977

CONTENTS

	<i>Pages</i>
Deferred Starred Questions and Answers	439
Leave of Absence	456
Message from the National Assembly <i>Re</i> : Adoption of the Land Reforms Bill, 1977— <i>Read out</i>	457
Message from the National Assembly <i>Re</i> : Adoption of the Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Bill, 1977— <i>Read out</i>	457
Resolution <i>Re</i> : Re-appointment of Mr. Justice Sajjad Ahmad Jan, Chief Election Commissioner— <i>Adopted</i>	457
The Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Ordinance, 1977— <i>Laid on the Table</i>	460
The Land Reforms Bill, 1977— <i>Passed</i>	461
The Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Bill, 1977— <i>Passed Prorogation</i>	498

PRINTED AT THE MERCANTILE PRESS, 42, CHAMBERLAIN ROAD, LAHORE
PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, KARACHI

Price : Paisa 50

[Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi]

(d) the condition for promotion of Assistant Professors as Professor :

(e) the number of V.I.P. Rooms in the said Centre :

(f) whether the V.I.P. Rooms can be used by M.N.As, M.P.As and Senators :

(g) the number, names and designations of the persons who used V.I.P. Rooms in the said Centre from 15th August to 1st October, 1976 with the duration of their stay ;

(h) whether it is a fact that there was complete break-down of electricity for four hours in the said Centre, specially in the Intensive Care Ward on 26th and 27th October, 1976 ; if so, the reasons therefor ; and

(i) whether it is a fact that two deaths occurred in the Intensive Care Ward due to the failure of electricity ?

Mr. Taj Mohammad Khan Jamali (Replied by Ch. Jehangir Ali) :

(a) Rs. 1,50,40,300 during 1976-1977.

(b) 2,700 approximate.

(c) Professors 19, Assistant Professors 32. Their names, qualifications and experience are given in Annexure I.

(d) 7 years experience as Assistant Professor in the respective speciality subject to a vacancy.

(e) Only 4.

(f) By the MNA's and Senators.

(g) Nine persons used the V.I.P. Rooms during this period. The requisite particulars are given in Annexure II.

X-Ray department of the Hospital are connected with the Generator of B.M.S.I.

(i) Yes. One death occurred on 26th October, 1976 at 4.50 pm during electric failure. . But it was a case of suicide by taking DDT orally. The case had no relevancy with electricity failure. The other death took place at 5.30 am on 26th October, 1976 when there was no electricity failure.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF POSTS OF PROFESSORS AND ASSISTANT PROFESSOR/
ASSOCIATE PHYSICIAN/SURGEON IN JINNAH POST GRADUATE MEDICAL CENTRE,
ALONGWITH THEIR QUALIFICATION AND EXPERIENCE

A—PROFESSORS

Name and Designation	Qualifications	Date of appointment/ Experience
1. Dr. Z.K. Kazi, Professor of Surgery (Orthopedic).	M.B.B.S., F.R.C.S., F.C.P.S.	20-1-1964
2. Dr. Lt. Col. S.A. Syed, Professor of Cardiology.	F.C.P.S., F.R.C.P.E., F.A.C.C.	15-10-1964
3. Dr. Aaur Rehman, Professor of Bio-Chemistry.	M.Sc. (Hons) Ph. D. (LONDON) A.R.T.C. (LONDON).	19-11-1966
4. Dr. Kh. Zaki Hasan, Professor of Neurology.	M.B.B.S., M.R.C.P. (EDIN.).	19-9-1966
5. Dr. S. M. Yusuf, Professor of Pharmacology.	M.B.B.S., M. Phil., Ph. D.	1-7-1971
6. Dr. A. Ghaffar Jatoi, Cardiac Surgeon (with the status of Professor).	M.B.B.S., F.R.C.S., F.T.H.I.	9-6-1972
7. Dr. S.M. Rab, Professor of Medicines.	M.B.B.S., M.R.C.P. (LONDON) F.R.C.P. (LONDON) F.C.P.S.	14-6-1972

- | | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 8. | Dr. Razia J.Rahmitoola, Professor of Paediatric. | M.B.B.S., D.C.H., M.R.C.P. | 22-6-1972 |
| 9. | Dr. N.A. Jafarey, Professor Pathology. | M.B.B.S., D.A.B.P. | 7-9-1972 |
| 10. | Dr. Mohd. Yunus Khan, Professor of Anatomy. | M.B.B.S., M. Phil., Ph. D. | 18-9.1974 |
| 11. | Dr. A.H. Haqqani, Professor of Paediatric. | M.B.B.S., M.R.C.P., D.C.H.(BOMBAY), D.C.H.(LONDON). | 19-9-74 |
| 12. | Dr. Mahmuda Said, Professor of Obstric and Gynaecology. | M.B.B.S., F.R.C.O.G. | 20-9-1974 |
| 13. | Dr. (Mrs.) Amtul Hafiz, Professor of Microbiology. | M.Sc., Ph. D. (U.S.A.) | 14-4-1975 |
| 14. | Dr. O.V. Jooma, Professor of Neuro Surgery. | M.B.B.S., F.C.P.S. (BOM.), F.R.C.S. (ENGLAND). | 14-9-1975 |
| 15. | Dr. A.M. Attar, Professor of Anaestheist. | M.B.B.S., D.A. (LONDON). | 19-2-1976 |
| 16. | Dr. S.A. Hamid, Professor of Surgery. | M.B.B.S., F.R.C.S., F.C.P.S. | 19-2-1976 |
| 17. | Dr. S. Hasan Manzoor, Professor of Radiotherapy. | M.B.B.S., D.M.R.T., F.I.C.S., F.I.C.A. | 19-2-1976 |
| 18. | Dr. A.L. Minhas, Professor of Medicine. | M.B.B.S., M.R.C.P., T.D. | 19-2-1976 |
| 19. | Dr. S.M. Sami Ashraf, Professor of Paediatric Surgery. | M.B.B.S., F.R.C.S., F.R.C.P.S. (EDIN.), F.R.C.S. | 19-2-1976 |

B—ASSISTANT PROFESSORS

Name and Designation	Qualifications	Date of Appointment/ Experience
1. Dr. A.B. Ali Momal, Associate Physician/Asstt. Professor (Surgery).	M.B.B.S., F.R.C.S. (ENGLAND), F.R.C.S. (EDIN.).	12-4-1962
2. Dr. Nizamul Hasan, Associate Surgeon/Asstt. Professor (Paed. Surgery).	M.B.B.S., F.R.C.S.	7-3-1964
3. Dr. T.H. Kirmani, Associate Surgeon/Asstt. Professor (Ophthalmology).	M.B.B.S., D.O.	31-12-1965
4. Dr. Iftikhar Hussain Rathore, Associate Surgeon (Thoracic-Surgery) Asstt. Professor.	M.B.B.S., F.R.C.S., F.A.C.S. (THORACIC SURGERY).	18-10-1967
5. Dr. Sulaiman Ahmed Khan, Associate Surgeon/Asstt. Professor (Orthopaedics).	M.B.B.S., F.R.C.S. (ENG.) F.R.C.S. (EDIN.).	18-10-1967
6. Dr. Zubaida Amin Malik, Assistant Professor of Pharmacology.	M.B.B.S., M.Sc.	18-10-1967

- | | | |
|---|--|------------|
| 7. Dr. S. Wahajul Hasnain, Associate Surgeon/Asstt. Prof. (E.N.T). | M.B.B.S., D.L.O., F.R.C.S. | 31-5-1969 |
| 8. Dr. Mohammad Saleh Memon, Associate Surgeon/Asstt. Prof. (Ophthalmology). | M.B.B.S., D.O., F.R.C.S. | 30-6-1970 |
| 9. Dr. Iftikhar Ali Rana, Assistant Prof. of Nutrition. | M.Sc., Ph. D. | 17-2-1971 |
| 10. Dr. Shah Jehan, Assistant Professor of Bio-Chemistry. | M.B.B.S., M. Phil. | 26-11-1971 |
| 11. Dr. Hamida Jamil, Associate Physician/Asstt. Prof. Intensive Care Unit. | M.B.B.S., M.R.C.P. | 10-2-1972 |
| 12. Dr. Abdul Baseer, Asstt. Prof. of Bio-Chemistry. | M.Sc. (Hons.), Ph. D. | 8-9-1972 |
| 13. Dr. Ashfaq Ahmad Khan, Associate Physician/Asstt. Prof. (Medicine). | M.B.B.S., D.T.M.& E., F.R.F.P.S., F.R.C.P. | 7-11-1972 |
| 14. Dr. Iqtidar Hamid Bhatti, Associate Surgeon/Asstt. Prof. (Neuro-Surgery). | M.B.B.S., F.R.C.S. | 21-2-1973 |
| 15. Dr. Mohammad Aslam Khan, Asstt. Prof. of Microbiology. | M.Sc., B.M.S.I. | 22-3-1974 |

Name and Designation	Qualifications	Date of Appointment Experience
16. Dr. Sadiqa N. Jafary, Associate Surgeon/Asstt. Prof. (Gynae. and Obstt.).	M.B.B.S., D.R.C.O.G., M.R.C.O.G.	31-5-1974
17. Dr. S. Haroon Ahmed, Associate Physician/Asstt. Prof. (Psychiatry).	M.B.B.S., M.R.C.P.	5-6-1974
18. Dr. Mahmood Alam, Asstt. Prof. of Pathology.	M.B.B.S., F.C.P.S.	6-6-1974
19. Dr. Ismat Majid, Associate Physician/Asstt. Prof. (Paed.).	M.B.B.S., D. (OBST.), R.C.O.G.	10-6-1974
20. Dr. Faiz Mohammad Khan, Associate Surgeon/Asstt. Prof. (Plastic-Surgery).	M.B.B.S., E.C.F.M.G., F.R.C.S.	27-3-1975
21. Dr. Abdus Samad, Associate Physician/Assistant Prof. (Haemodyomaces).	M.B.B.S., F.C.P.S.	17-4-1973
22. Dr. Hasan Aziz, Associate Physician/Assistant Prof. (Neurology).	M.B.B.S., F.R.C.P.	11-6-1973

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| 23. | Dr. Tanweer Islam, Associate Surgeon (Gynae. & Obstt.), Assistant Professor. | M.B.B.S., D.T.M. & H., M.R.C.O.G. | 9-10-1975 |
| 24. | Dr. Qaiser Jehan, Assistant Professor of Pathology. | M.B.B.S., M. Phil. (Path.). | 31-12-1975 |
| 25. | Dr. Manzoor Ali Arif, Associate Physician/Assistant Professor (Paed.). | M.B.B.S., D.C.H., M.R.C.P., D.T.M. & H. | 5-2-1976 |
| 26. | Dr. Mirza Zakauallah Beg, Associate Physician (Chest Diseases), Asstt. Prof. | M.B.B.S., D.T.C.D. (Wales). | 8-3-1976 |
| 27. | Dr. Mohammad Ishaq Qureshi, Associate Surgeon (ENT)/Asstt. Prof. | M.B.B.S., F.R.C.S. | 1-4-1976 |
| 28. | Dr. Mazhrul Haq, Associate Physician Medicines/Assistant Prof. | M.B.B.S., M.R.C.P., D.T.C.D. | 26-9-1965 |
| 29. | Dr. Saghir Ahmad, Associate Surgeon (Paediatric Surgery), Assistant Professor. | M.B.B.S., F.C.P.S. | 20-7-1974 |
| 30. | Dr. Miss Durreh Samin Akhtar, Associate Physician (Paediatric)/Assistant Prof. | M.B.B.S., M.D. (U.S.A.) | 8-6-1976 |
| 31. | Dr. Abdul Majeed, Associate Physician/Assistant Professor | M.B.B.S., F.R.C.S. | 24-7-1976 |
| 32. | Dr. T.H. Haroon, Associate Physician/Assistant Professor (Dermatology). | M.B.B.S., M.R.C.P. | 11-10-1976 |
-

LIST OF ADMISSIONS AND DISCHARGES IN VIP ROOMS OF SPECIAL WARD OF THE JINNAH
POST-GRADUATE MEDICAL CENTRE, KARACHI FROM 15TH AUGUST, 1976 TO 1ST
OCTOBER, 1976

Sl. No.	VIP Room No.	Name and Designation of the patient	Date	
			Admission	Discharge
1.	1	Master Faraz Siddiq S/o Dr. Shahzad Siddiq, Chairman, Oil & Gas Development Corporation.	12-9-1976	16-9-1976
2.	1	Mrs. Medhi Hasan W/o Mr. Mehdi Hasan, Director, Academy of Administrative Training, Lahore.	9-9-1976	8-10-1976
3.	2	Mr. Mohammad Hassan Haqqani, M.P.A. Sind.	15-8-1976	31-8-1976
4.	2 & then shifted in Room 4	Mr. Zahoorul Hasan Bhopali, M.P.A. Sind.	24-8-1976	16-9-1976
5.	2	Mr. Zahoorul Hasan Bhopali, M.P.A. Sind.	29-9-1976	to-date.
6.	3	Khalid Iftikhar S/o Mr. I.A. Khan, Joint Secretary, Cabinet Division.	26-7-1976	21-10-1976
7.	4	Mr. Khawaja Mohd. Amin, Managing Director, National Bank of Pakistan.	19-8-1976	24-8-1976
8.	4	Col. M.A. Samad, Joint Secretary, Foreign Affairs.	21-9-1976	to-date
9.	2 & then shifted to Room 1.	Mr. A.G. Agha, Retired C.S.P. Officer of Grade 20.	28-5-1976	11-9-1976

Mr. Chairman : Next question No 24.

RAILWAY STOLEN PROPERTY

24. *Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi (Put by Haji Sayed Hussain Shah) : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) the value of property stolen, year-wise, from the goods Sheds, Parcel Offices, Platforms, Workshops and Stores during the last five years ; and

(b) the number of Railway employees arrested and dismissed, year-wise, for the aforesaid thefts during the last five years ?

Mr. Hafeezullah Cheema (Minister for Railways) :

(a)	Year					Value of property Rs.	
	1971	53,118	
	1972	46,552	
	1973	1,10,509	
	1974	69,778	
	1975	2,87,507	
(b)	Year					Arrested	Dismissed
	1971	74	20
	1972	96	18
	1973	110	31
	1974	94	16
	1975	104	11

Haji Sayed Hussain Shah : Supplementary, Sir. Will the honourable Minister Incharge be pleased to state how many persons were convicted during the last five years ? They have given the number of persons arrested during the last five years, but I want to know how many persons were convicted by the courts during the last five years.

Mr. Hafeezullah Cheema : I need a notice for that, because in the question the information was asked about the number of persons arrested.

Mr. Chairman : That we know. If you want notice, you say 'I need notice'. That is all. You need not give reasons. He did not ask in the main question the number of people who were convicted.

[Mr. Chairman]

Next question.

RAILWAY OWNED LAND

25. ***Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi** (Put by Haji Sayed Hussain Shah) : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) whether any survey has been made of the owned land by the Railway Department in Karachi, Lahore and Rawalpindi Divisions which has been or is being occupied by squatters ; if so, the details thereof ; if not, whether such a survey would be made and the land got cleared of the squatters ; and

(b) whether it is a fact that a large number of the Railways employees in the Divisions referred to in (a) above have not been provided residential accomodation ; if so, the steps being taken to utilise the land cleared of the squatters for building houses for the Railways employees ?

Mr. Hafeezullah Cheema : (a) Yes. The details are given in Annexure. Continuous efforts are being made to get the land so encroached cleared of the squatters.

(b) Yes. Out of a total of 1,37,478 employees on the rolls of Pakistan Railways, about 45% have been provided with residential accommodation. A Land Management Cell has been created on Pakistan Railways which has been assigned the functions of protection of Railway boundaries, removal of encroachments made by squatters and utilisation of vacant Railways lands for commercial and agricultural uses as also their lease to Housing Societies of Railway employees.

Annexure

DETAILS OF RAILWAY LAND ENCROACHED BY SQUATTERS ON RAWALPINDI, LAHORE AND KARACHI DIVISIONS

Sl. No.	Division	Area of encroachment under squatters	Number of families in occupation of the land in column No. 3
1.	Karachi	63.15 acres.	15,546
2.	Lahore	57.49 acres.	3,790
3.	Rawalpindi	60.88 acres.	1,290
	Total	181.52 acres.	20,626

Mr. Chairman : Next question.

POWERS OF RAILWAY GAURDS ANTE TO ISSUE TICKETS

26. *Khawaja Mohammad Safdar (Put by Haji Sayed Hussain Shah) : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the power of the Railway guard to issue a certificate and that of the Travelling Ticket Examiner to issue a ticket have been withdrawn recently ; if so, the reasons therefor ; and

(b) whether it is a fact that the passengers who for lack of time cannot purchase their tickets from the Railway Booking Offices, are now facing a great hardship as they have to pay the fare from the station from which the train start ?

Mr. Hafeezullah Cheema : (a) The powers of Guards to issue certificates to ticketless passengers have been withdrawn. Travelling Ticket Examiners can issue tickets to ticketless passengers on payment of prescribed excess charges. The reasons for doing so were that these powers were being misused causing financial loss to the Railway.

(b) No. Passengers travelling without ticket are charged from the station from which the train started, or from the last checking station, whichever is later.

Mr. Chairman : Next question.

(Originally set down for answer on 9th December 1976)

RAILWAY POLICE AND WATCH & WARD

47. *Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi (Put by Haji Sayed Hussain Shah) : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) the total number of personnel of the Railway Police and Watch & Ward department :

(b) the total annual expenditure on maintaining these forces ; and

(c) the number of persons arrested by them for theft and other offences during the last five years, Division-wise ?

Mr. Hafeezullah Cheema : (a) 7,697.

(b) Rs. 1,94,22,000.

(c) Number of persons arrested by Railway Police and Watch & Ward for thefts and other offences during the last 5 years, viz. : 1971 to 1975.

[Mr. Hafeezullah Cheema]

Division			No. of persons
Lahore	3,117
Rawalpindi	3,483
Multan	2,036
Karachi	1,771
Sukkur	1,081
Quetta	977

Mr. Chairman : Next question.

RAIL ACCIDENTS

48. *Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi (Put by Haji Sayed Hussain Shah) : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) the number of Rail accidents during the last four years ;

(b) the number of persons killed in these accidents ;

(c) the main causes of these accidents ; and

(d) whether any compensation was paid to the dependents of the persons killed in these accidents ; if so, the total amount paid to them by the Pakistan Railways ?

Mr. Hafeezullah Cheema : (a) The number of train accidents which took place on the Pakistan Railways during the last four years, *i.e.* from 1-1-1973 to 30-11-1976 was 513.

(b) 142 persons (18 passengers, 13 railway employees and 111 road users) were killed in these accidents.

(c) The main causes of these accidents were Drivers' running against signals, excessive speed, sinkage of track by rain, flaw in material and negligence of road users.

(d) Yes. The total amount of compensation paid by Pakistan Railways to the dependents of the persons killed in these accidents was Rs. 2,41,000.

FOREIGN CONTROLLED DRUG COMPANIES

49. *Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi (Put by Haji Sayed Hussain Shah) : Will the Minister for Labour, Manpower, Health and Population Planning be pleased to state :

(a) the percentage of share of foreign controlled drug Companies in the drug manufacturing Companies of the country ;

(b) the paid-up capital of each foreign controlled drug Company ;

(c) the gross and net profits earned and dividend distributed by each foreign controlled Company from 1st January, 1972 till 31st October, 1976 ; and

(d) the total amount of foreign exchange remitted by each foreign controlled company from 1972 till 31st October, 1976 ?

Ch. Jahangir Ali : (a) This part of the question is vague.

(b) Information is as per column (a) of the consolidated statement attached alongwith.

(c) Figures of Gross and Net profit are as per column (b) of the consolidated statement attached alongwith.

Figures of the dividend have been called, but still awaited.

(d) The matter concerns the Ministry of Finance. For requisite information the question be addressed to the said Ministry direct.

[STATEMENT SHOWING INFORMATION CONCERNING FOREIGN CONTROLLED DRUG MANUFACTURING COMPANIES LICENSED UNDER DRUGS ACT, 1976 ASKED FOR IN STARRED SENATE QUESTION NO. 49 BY MAULANA SHAH AHMAD NOORANI SIDDIQI]

Name of the firm	(a) Paid-up capital (Rs. in lacs)		(b) profit in Rs.	
			Gross	Net
1. M/s. Abbott. Laboratories (Pakistan) Limited, Karachi.	20.00	1972	—	loss
		1973	14,12,584	5,39,471
		1974	22,20,858	9,24,595
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
2. M/s. Bayer Pharma, Limited Karachi.	20.00	1972	13,42,758	4,02,758
		1973	29,28,150	2,77,050
		1974	6,92,565	2,39,565
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.

Name of the firm	(a) Paid-up capital (Rs. in lacs)		(b) Profit in Rs.	
			Gross	Net
3. M/s. Boots Company (Pak.) Limited, Karachi.	27.10	1972	237	037
		1973	1,349	373
		1974	1,319	488
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
4. M/s. Cyanamid (Pak.) Limited, Karachi.	9.11	1972	10,02,490	3,01,292
		1973	22,65,068	7,93,577
		1974	39,79,934	16,08,839
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
5. M/s. Hoechst (Pak.) Limited Karachi.	96.88	1972	awaited	awaited
		1973	9,63,350	9,63,350
		1974	53,934	53,934
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
6. M/s. Sandoz Limited, Hyderabad.	160.00	1972	1,897	N. A.
		1973	906	Do.
		1974	1,380	Do.
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
7. M/s. Merck Sharp & Dhome, Karachi.	38.80	1972	13,49 lacs	13.49 lacs
		1973	21.74 ,,	13.62 ,,
		1974	32.69 ,,	12.55 ,,
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
8. M/s. Wellcome, (Pak.) Ltd., Karachi.	28.41	1971-72	32,83,741	13,09,741
		1972-73	59,84,285	20,74,285
		1973-74	1,18,63,038	48,01,738
		1974-75	1,31,87,246	50,87,246
		1976	awaited	awaited
9. M/s. Wyeth Labs. (Pak.) Ltd., Lahore.	25.00	1972	64,478	—
		1973	17,77,372	10,15,420
		1974	37,03,850	15,01,730
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
10. M/s. Searle (Pak.) Limited, Karachi.	6.00	1972	Nil.	Nil.
		1973	10,01,491	4,01,491
		1974	11,93,537	3,32,754
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.

Name of the firm	(a) Paid-up capital (Rs. in lacs)	(b) Profit in Rs.		
			Gross	Net
11. M/s. Glaxo Labs. Ltd., Karachi.	377.84	1971-72	30,58,723	41,59,753
		1972-73	62,86,050	30,14,772
		1973-74	92,51,137	—
		1974-75	90,70,359	66,19,532
		1976	awaited	awaited
12. M/s. Smith Kline & French of Pakistan Ltd., Karachi.	—	1972	24,17,402	8,56,377
		1973	49,13,281	18,78,186
		1974	59,97,268	21,14,736
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
13. M/s. Reckitt & Colman (Pak.) Ltd., Karachi.	32.94	1971-72	678	128
		1972-73	902	304
		1973-74	502	183
		1975	475	167
		1976	awaited	awaited
14. M/s. Beecham (Pak.) Limited, Karachi.	7.50	1971-72	4,10,692	1,47,184
		1972-73	3,84,274	0,94,432
		1973-74	13,27,099	3,48,621
		1974-75	14,64,487	3,50,744
		1976	awaited	awaited
15. M/s. Sterling Products (Pak.) Limited, Karachi.	—	1972	6,39,106	6,39,106
		1973	17,05,703	17,05,703
		1974	22,48,856	22,48,856
		1975	29,48,299	29,48,299
		1976	awaited	awaited
16. M/s. Parke Davis & Co. Ltd., Karachi.	57.60	1972	8,51,264	5,63,736
		1973	28,13,732	9,46,102
		1974	36,57,923	14,27,923
		1975	20,64,051	35,949
		1976	awaited	awaited
17. M/s. Pfizer Labs. Limited, Karachi.	147.50	1972	43,14,611	15,14,611
		1973	2,16,17,420	68,97,420
		1974	2,46,21,146	72,18,146
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
18. M/s. Aspro-Nicholas, Karachi.	—	1971-72	7,62,035	2,062
		1972-73	2,46,483	1,71,034
		1973-74	9,81,593	3,19,546
		1974-75	9,52,124	4,08,748
		1976	awaited	awaited

Name of the firm	(a) Paid-up capital (Rs. in lacs)		(b) Profit in Rs.	
			Gross	Net
19. M/s. Johnson & Johnson (Pak.) Ltd., Karachi.	21.88	1972	1,19,000	1,19,000
		1973	5,39,000	5,39,000
		1974	2,15,000	2,15,000
		1975	awaited	awaited
		1976	Do.	Do.
20. M/s. Smith & Nephew (Pak.) Limited, Karachi.	7.90	1972	Loss	Loss
		1973	1,97,803	75,803
		1974	76,615	46,615
		1975	awaited	awaited
21. M/s. Harmone Labs. (Pak.) Ltd., Karachi.	—	1972	27,13,475	Loss
		1973	14,584	
		1974	5,00,385	
		1975	10,07,033	
		1976	awaited	awaited
22. M/s. W. Woodward (Pak.) Limited, Karachi.	7.50	1972	15,66,674	4,65,811
		1973	18,86,286	7,24,431
		1974	16,33,385	6,47,510
		1975	17,78,066	6,66,775
		1976	awaited	awaited

Mr. Chairman : Now, the questions are over and we move on to the next item.

LEAVE OF ABSENCE

Mr. Chairman : It is a leave application by Masud Ahmad Khan. It reads :

“Not yet fully recovered. Kindly allow leave till rest of the Session.”

Should the leave be granted ?

(The leave was granted)

Mr. Chairman : Leave is granted.

MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY *RE* :
ADOPTION OF THE LAND REFORMS BILL, 1977

Mr. Chairman : Now, there are messages from the Secretary, National Assembly to the Secretary, Senate Secretariat.

The first message reads :

“Sir,

In pursuance of rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Land Reforms Bill, 1977 on the 7th January. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY *RE* :
ADOPTION OF THE TRANSFER OF EVACUEE LAND
(KATCHI ABADI) (AMENDMENT) BILL, 1977,

Mr. Chairman : The second message reads :

“In pursuance of rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Bill, 1977 on the 7th January. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

Now, we take up Resolution. It is item No. 3.

RESOLUTION *RE* : APPOINTMENT OF MR. JUSTICE
SAJJAD AHMED JAN, CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Malik Mohammad Akhtar : (Minister for Law and Parliamentary Affairs) : Sir I beg to move :

“The Senate resolves that, under proviso (b) to clause (2) of Article 216 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Justice.....”

Sir, I am not reading the word ‘Retired.’

“.....Sajjad Ahmed Jan, Chief Election Commissioner may be re-appointed to that office for another term of three years after the expiration of his present term of office as extended by the National Assembly by a resolution adopted on the 29th March, 1976.”

Mr. Chairman : The resolution moved is :

“The Senate resolves that under proviso (b) to clause (2) of Article 216 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Justice (Retd.) Sajjad Ahmed Jan, Chief Election Commissioner may be re-appointed to that office for another term of three years after the expiration of his present term of office as extended by the National Assembly by a resolution adopted on the 29th March, 1976.”

Malik Mohammad Akhtar : Sir, the word ‘Retired’ may be deleted. I move an oral amendment, Sir.

Mr. Chairman : The word ‘Retired’ ?

Malik Mohammad Akhtar : I did not read it. This should be deleted either by an amendment or as it is possible.

Mr. Chairman : So, somebody else can move an amendment that the word ‘Retired’ be deleted.

Mr. Qamaruz Zaman Shah : Sir, I beg to move an oral amendment to delete the word ‘Retired’ from this resolution.

Mr. Chairman : The amendment to the resolution moved is :

“That the word ‘Retired’ occurring in the fourth line just before the words ‘Sajjad Ahmed Jan’ be deleted.”

Malik Mohammad Akhtar : Not opposed.

Mr. Chairman : All right. I will put the question.

The question before the House is :

“That the word ‘Retired’ in the fourth line immediately after the words ‘Mr. Justice’ and before the words ‘Sajjad Ahmed Jan’ be deleted.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The amendment is carried.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I need not speak on it.

Mr. Chairman : But now you have to move the amended resolution.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I beg to move :

“The Senate resolves that, under proviso (b) to clause (2) of Article 216 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Justice Sajjad Ahmed Jan, Chief Election Commissioner may be re-appointed to that office for another term of three years after the expiration of his present term of office as extended by the National Assembly by a resolution adopted on the 29th March, 1976.”

Mr. Chairman : The motion moved is :

“The Senate resolves that, under proviso (b) to clause (2) of Article 216 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Justice Sajjad Ahmed Jan, Chief Election Commissioner may be re-appointed to that office for another term of three years after the expiration of his present term of office as extended by the National Assembly by a resolution adopted on the 29th March, 1976.”

Yes, do you want to explain ?

Malik Mohammad Akhtar : No, Sir. It is unanimous.

Mr. Mohammad Hashim Ghilzai (Leader of the Opposition) : There is no opposition and everybody is in favour of this resolution.

Mr. Chairman : All right. There is no opposition.

جناب شہزاد گل : جناب والا ! جہاں تک ریزولیوشن کا تعلق ہے۔ ہم ریزولیوشن کی مخالفت نہیں کرتے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ لیکن ہم سب ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ حکمران پارٹی نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ویسے آئین میں الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر سجاد احمد جان بعض ضمنی انتخابات کے موقع پر کہہ چکے ہیں۔۔۔

Malik Mohammad Akhtar : On a point of order, Sir. Let this resolution be adopted, and then he can speak.

جناب شہزاد گل : ہم مخالفت نہیں کرتے۔

جناب چیئرمین : ہم مخالفت نہیں کرتے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ برا کام کرتا ہے۔

Malik Mohammad Akhtar : I am sorry. You can talk later on.

Mr. Chairman : But you cannot blow hot and cold in the same breath.

جناب شہزاد گل : آن کو اختیارات دیئے جائیں انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تھا کہ میں مجبر ہوں۔ یہ ریکویسٹ کہ ان کی معیاد میں توسیع کی جائے ٹھیک ہے لیکن اس کے اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے۔ اس کو آزادانہ طور پر چھوڑ دیا جائے تا کہ ملک میں جو عام انتخابات ہونے والے ہیں وہ اپنے اختیارات کو پوری طرح، آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔

Mr. Chairman : The Law Minister must have taken notice of your suggestion.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, without debating the resolution itself, it was thought proper that the present Chief Election Commissioner, who was continuing until his successor comes in the Office or succeeds him, be re-appointed under Article 216, clause (2) (b) so that he gets a tenure and works independently rather more independently and with confidence. So, I consider that there should be no two opinions about that and I again request that the resolution may be adopted unanimously.

Mr. Chairman : I think, no other Member is desirous of participating in this debate or adding to what has already been said by both sides of the House.

(Pause)

Mr. Chairman : I will put the resolution to the House. The question/amended resolution before the House is :

“The Senate resolves that, under proviso (b) to clause (2) of Article 216 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Mr. Justice Sajjad Ahmed Jan, Chief Election Commissioner may be re-appointed to that office for another term of three years after the expiration of his present term of office as extended by the National Assembly by a resolution adopted on the 29th March 1976.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The resolution is adopted. Now you have to lay papers before the House.

THE TRANSPORT OF EVACUEE LAND (KATCHI ABADI)
(AMENDMENT) ORDINANCE, 1977

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I beg to move :

“To lay before the Senate, the Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Ordinance, 1977 (I of 1977)...as required by clause (2) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.”

Mr. Chairman : The Ordinance has been laid on the Table of the House. Now, we take up legislative business.

THE LAND REFORMS BILL, 1977

Shaikh Mohammad Rashid (Minister for Food and Agriculture, Co-operatives, Under-developed Areas and Land Reforms) : Sir, I beg to move :

“That the Bill to provide for further land reforms [The Land Reforms Bill, 1977], as passed by the National Assembly be taken into consideration.”

Mr. Chairman : The motion made is :

“That the Bill to provide for further land reforms [The Land Reforms Bill, 1977], as passed by the National Assembly be taken into consideration”.

Mr. Shahzad Gul : It is opposed, Sir, and the Minister may explain it.

Mr. Mohammad Hashim Ghilzai : Opposed.

Mr. Chairman : Yes, he will explain. Who said opposed ?

Mr. Shahzad Gul : We both the Leader of the Opposition and I opposed it. Let the honourable Minister explain the reasons.

Mr. Chairman : No, no, I understand that. Well, was the voice raised by you ?

Mr. Mohammad Hashim Ghilzai : Yes.

(At this moment Sheikh Mohammad Rashid, the Minister for Food and Agriculture stood up to speak)

Mr. Chairman : This is just by way of friendly advice to you. I am not going to restrict your right to say anything you like. As a matter of fact, the Ordinance has been read by almost everybody, because it was promulgated three or four days back ; that I know, but certain amendments have been adopted yesterday by the National Assembly. Almost everybody knows the Ordinance itself and the law passed, but certain amendments were made to the Bill. You highlight those amendments. You can say anything. You can have your own way of putting the thing.

Shaikh Mohammad Rashid : Sir, here the Bill is directed to further reduce the ceiling from 150 acres of irrigated land, 300 acres of unirrigated land, or 12,000 produce index units, which ever is greater to 100 acres of irrigated land and 200 acres of unirrigated land or 8,000 produce index units, whichever is greater.

[Sheikh Mohammad Rashid]

Sir, this is the spirit of this Bill which is before this august House. Sir, you will recall that this Government under the able leadership of the Prime Minister introduced the land reforms for the first time in 1972 and promulgated MLR 115 and by that measure the ceiling was reduced from 500 acres of irrigated and 100 acres of unirrigated land to 150 acres of irrigated and 301 unirrigated land.

Then, Sir, all the concessions granted under the previous land reforms of 1959 were also not granted by that MLR 115. Here only the simple proposition is that the ceiling has been further reduced from 150 acres and 300 acres of irrigated and unirrigated land respectively to 100 irrigated and 200 unirrigated respectively. Sir, here I would only seek your permission to submit that this is the third time that this Government has brought this revolutionary measure of land reforms. For the first time, as I had explained, it was in 1972, and then, for the second time, the Prime Minister was pleased to sign a Charter of Declaration during the Peasants Week whereby all State land was reserved for landless and owners of less than subsistence holdings. Then there was another very important measure also in as much as that the occupancy tenants of State lands were also granted ownership rights.

Sir, this is the third time that these revolutionary measures are being brought and as I have explained, this is directed to further reduce the ceiling of individual holdings. I would only submit that by introducing these reforms, of course, there were many more reforms which have been introduced but which are not before the Senate. Yesterday there was a Bill by which the owners of 25 acres of irrigated and 50 acres of unirrigated land were exempted from the payment of land revenue. Then, there were many more measures, such as, the Patfeeder area where more than 5,000 acres of land has been resumed and has been distributed among the tenants. Likewise in Swat, Dir and Chitral, the land has been equitably distributed along the tillers of the soil and about 40,000 of them have been benefited. I would only state, for the benefit of this august House, that under MLR 115 and all those measures about 33 lakh acres have been resumed and out of that more than 14 lakh acres have been distributed among the tillers of the soil thereby benefiting 131,000 tenants or cultivators. This is in addition to these 40,000 tillers of the soil which have benefited in Swat, Dir and Chitral and also in the Patfeeder area. This is the position which is directed towards ameliorating the lot of the tillers of the soil, on the one hand, and also to break the feudal influence in the rural area.

So, Sir, this is in brief the aim towards which the Bill is directed and I would only respectfully suggest that this Bill may be passed and, of course, this Bill is to give consolation and satisfaction to the teeming millions of the tillers of the soil. And, finally, I would suggest that by introducing this measure, the Pakistan Peoples Party under the dynamic leadership under the Prime Minister, has redeemed its pledge made to the people. Thank you.

Mr. Chairman : Thank you.

(Pause)

Mr. Chairman : Any other gentleman wishing to speak ?
You ?

Mr. Shahzad Gul : Yes, Sir,

Mr. Chairman : Yes.

جناب شہزاد گل : جناب والا ! جہاں تک اس بل کا تعلق ہے ، ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور ملک کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے ۔ ملک کی اکثریت کی آبادی دیہاتوں میں بستی ہے اور ملک کی اکثریت کی زندگی کا ، اس کے کاروبار کا انحصار زراعت پر ہے ۔ زراعت میں بھی زیادہ لوگ ، کسانوں کی اکثریت چھوٹے مالکوں کی ہے ۔ لہذا کسان کا ، چھوٹے مالک کا مفاد جس چیز میں ہو ، میرے خیال میں جمہوری ملک میں اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا ۔ جناب والا ! ہم اس طرف بیٹھے ہوئے آج خصوصاً ، کیونکہ ہم جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ، ان کا تعلق جس پارٹی سے ہے ، یعنی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ۔ اس نے بھی اپنے منشور میں زرعی اصلاحات کو واضح طور پر پیش کیا ہے ۔ این ڈی پی نے بھی اپنے منشور میں زیادہ زمین کی حد ملکیت ۱۰ ہزار انڈس یونٹ رکھی ہے ۔

شیخ محمد رشید : معاف کرنا ، میں نے نہیں سنا ، دوبارہ فرمائیں ۔

جناب شہزاد گل : جناب والا ! ۱۰ ہزار یونٹ کہا ہے ۔

چونکہ ہم یقین رکھتے تھے کہ اگر ہمیں ، این ، ڈی ، پی ، کو اختیارات ملے تو ہم اس ملک میں اس قسم کی زرعی اصلاحات نافذ کرتے ۔

جناب والا ! موجودہ حکومت نے ۱۹۷۲ء میں زرعی اصلاحات نافذ کی تھیں ۔ اس میں ۱۲ ہزار یونٹ رکھے تھے ۔ اس میں دو ہزار یونٹ ٹریکٹروں کے بھی رکھے تھے ۔ اس طرح کل یونٹ ۱۴ ہزار تھے ۔ یہ بھی زیادہ سے زیادہ رقبہ کی ملکیت ۶۴ ہزار یونٹ تھی ۔ اب ہم اس کو کم کر کے ۱۰ ہزار یونٹ تک لے آئے تھے ۔ اب اس کو اور کم کر کے ۸ ہزار یونٹ حد ملکیت مقرر کی گئی ہے جس کے لئے یہ موجودہ بل لایا گیا ہے ۔ یہ بھی جناب والا ! خوشی کی بات ہے ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مزید زرعی اصلاحات ہوں تاکہ جن لوگوں نے ۱۹۷۲ء کی زرعی اصلاحات میں بددیانتی سے یا مختلف ٹریکٹروں سے فرضی ناموں پر جائیدادیں منتقل کی تھیں یا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ جائیدادیں بچانے کی کوشش کی تھی ، یا فرضی طور پر ٹریکٹروں ، گھٹ کے ذریعے یہ دو ہزار یونٹ رکھے ہوئے تھے یعنی مزید زمینیں حاصل کی ہوئی تھیں ، ان کا محاسبہ ہو سکے ۔ اور اب یہ کیا گیا ہے کہ یہ

[Mr. Shahzad Gul]

دو ہزار یونٹ والی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اور یہ چیز ختم کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک واضح نقشہ آسکے۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اس دفعہ زرعی اصلاحات میں ٹریکٹروں، باغات اور شکار گاہوں وغیرہ کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اور یہ صاف کہا گیا ہے کہ اب حد ملکیت ۸ ہزار ہوگی۔ تو جناب والا! ہماری بھی پارٹی یہی چاہتی تھی۔ لیکن جناب والا! جہاں تک سیلنگ کا تعلق ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم اس بل کی اصلاحات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا! ساتھ ہی اس ملک میں چھوٹے مالکان بھی ہیں اور ان کے بھی کئی مسائل ہیں۔ اس موجودہ قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد، چھوٹے مالکان جب اس ملک میں پیدا ہوں گے، تو ان کے بھی مسائل ہوں گے۔ لیکن اس بل میں ان مسائل کے بارے میں جو آج کل چھوٹے مالکان کو درپیش ہیں یا جو نئے مالکان یا طبقہ پیدا ہو گا ان کو پیش آئیں گے میں نے گذارشات پیش کی ہیں۔ میرے دوست جو اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر گز یہ تصور نہ کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زرعی اصلاحات کے خلاف ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں۔ صرف ایک مقام پر تجویز کے طور پر میں نے عرض کیا ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد جب کلاز ۲۱ کے تحت رولز بنیں گے اور ساتھ ہی جب ان پر عملدرآمد ہو گا یا صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں کے حالات کے پیش نظر رولز بنائیں گئی تو ان قواعد کو عمل میں لاتے ہوئے بعض بنیادی مشکلات جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔

جناب والا! جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اپنی ۶ تاریخ کی تقریر میں فرمایا ہے کہ چونکہ انتخابات آنے والے ہیں اور ہر ایک پارٹی نے اپنے اپنے انتخابی منشور میں زرعی اصلاحات کے پروگرام قوم کے سامنے پیش کئے ہیں، تو اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لئے انتخابات سے پہلے ہی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ جناب والا! ہماری یہ گذارش ہے کہ زرعی اصلاحات کے متعلق بے یقینی کو مکمل طور ختم کیا جائے اور جو چھوٹے مالکان ہیں، جن کی زمین ۵۰ جریب نہری، اور ۱۹۹ جریب بارانی ہے، یا جو مالک بن جائیں گے، تو ان کو کم از کم یقین ہو کہ وہی اس میں محنت کریں گے، اس زمین میں پیداوار کریں گے اس زمین میں ترقی کریں گے، تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے۔ اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ جو اگلے ۵ سال آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حد ملکیت ۲۰ جریب تک آجائے، یا ۲۵ جریب تک آجائے، تو اس بے یقینی کی حالت میں وہ اپنی زمین میں ترقی نہیں کریں گے۔ ان کا اس میں دل نہیں لگے گا۔ وہ اچھی طرح محنت نہیں کریں گے۔ تو جناب والا! اس قسم کی بے یقینی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ ختم کی جائے۔ ہم اس کا خیر مقدم

کرتے ہیں اگر حکومتی پارٹی، زمین کی حد ملکیت ۱۰۰ ایکڑ نہری، اور ۲۰۰ ایکڑ بارانی مقرر کرے، اور اگر وہ، ۵۰ ایکڑ نہری، اور ۱۰۰ ایکڑ بارانی، مقرر کرتی ہے، تو بھی ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اگر انہوں نے اس زمین کی حد ملکیت گھٹا کر ۲۰ ایکڑ اور ۴۰ ایکڑ مقرر کی، تو بھی ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ لیکن یہ جو غیر یقینی حالت لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ ختم کی جائے تاکہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جائے اور دل لگا کر کام کر سکے۔۔۔۔۔

جناب چیئرمین: میں آپ کو روکتا تو نہیں ہوں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس بل میں آپ نے ایک بات کو تین دفعہ دہرایا ہے۔ یہ چیز غیر ضروری ہے۔ اس کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں آپ تقریر کریں۔ آپ بار بار ایک ہی چیز کو دہرا رہے ہیں۔

ابھی بہت سے ممبران نے تقریر کرنی ہے۔ انہوں نے بھی اس میں حصہ لینا ہے۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی تقریر کریں۔ اگر اسی طرح ریپیشن ہوتی رہی تو پھر کام ختم نہیں ہو گا۔ آپ تقریر کریں لیکن ریپیشن کو مد نظر رکھیں۔

جناب شہزاد گل: ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے جناب والا! کہ ایک غیر قابض مالک ہے۔ اس کی زمین ہے، لیکن اس کا قبضہ نہیں ہے۔ اور وہ اب کاشت کرنا چاہتا ہے تو اس زرعی اصلاحات کی زد میں وہ آ جاتا ہے۔ وہ مالک تو ہے۔ لیکن موقع پر اس کا قبضہ نہیں ہے اور مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ کے تحت تقسیم پر پابند ہے، تو اس کے لئے مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ میں گنجائش رکھی جائے جو غیر قابض مالک ہیں وہ اگر واقعی طور پر زمین کاشت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو زمین کاشت کرنے کی اجازت دی جائے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی سروس کر رہا ہے، اور زمین کاشت نہیں کر رہا اور اب وہ سروس سے ریٹائر ہو گیا ہے اور زمیندار کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ اس کے پاس پہلے سے قبضہ نہیں تھا، اور اب زمین تقسیم نہیں ہو سکتی، اور وہ مارا مارا پھرے گا، لیکن مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ میں اس کے لئے کوئی ریمیڈی نہیں ہے، تو اس قانون میں ایسا شخص جو ہے اس کے لئے تقسیم کی گنجائش رکھی جائے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کوآپریٹو فارمنگ ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ صوبہ سرحد میں جس شخص کے پاس زمین کا قبضہ ہے وہ اس کو کسی طرح چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر جو مالک ہے وہ کوآپریٹو فارمنگ میں اپنی زمین سرنڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کی گنجائش رکھی جائے کہ زمین تقسیم ہو سکے۔ اور

[Mr. Shahzad Gul]

حکومت نے اس میں اپنے لئے تو گنجائش رکھی ہے کہ جو انڈیوائیڈڈ رقبہ ہو گا یا انڈیوائیڈڈ شاملات جو تقسیم ہو اور جو رقبہ سبسٹنس پولڈنگ ہے ، وہ تو تقسیم کیا جائے گا ، لیکن جو اس کے پاس بچے گا اور وہ اس پر قابض ہے ، اس میں تقسیم کی گنجائش نہیں ہے ۔ جناب والا ! اس طرح ایک چھوٹا مالک جو پانچ دس جریب کا مالک ہے اور پھر ۱۹۷۲ء کی زرعی اصلاحات جناب ! آپ کے علم میں ہیں ، اور سرحد میں سابقہ قانون کے تحت مالک اور کسان کے درمیان مقدمہ بازیاں چل رہی ہیں ، تو اس قسم کے جو حالات ہیں ان کو ختم کیا جائے ۔ اور اگر کوئی خود کاشت کے لئے زمین چاہے اور جو پانچ یا دس جریب کا مالک ہے اس کو کاشت کی اجازت دی جائے اور اس کو اگر بے دخلی کریں تو اس میں گنجائش رکھی جائے ۔

جناب والا ! اگرچہ زرعی ٹیکس کا قانون اس ہاؤس میں نہیں آ رہا ہے ، لیکن لینڈ ریفارم کا اس سے تعلق ہے ۔ اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ مالیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ، اور سرحد میں ایک جریب پر آٹھ آنے مالیہ تھا ، اور سو ایکڑ پر پچاس روپے مالیہ تھا ۔ لیکن جو زرعی ٹیکس لگایا گیا ہے تو اس ٹیکس کے حساب سے بجائے پچاس روپے کے ، پانچ سو روپے ٹیکس آئے گا ۔ اگر حساب لگائیں تو پچاس روپے کی بجائے پانچ سو روپے ہو گا ۔ جناب والا ! اس کی بجائے حکومت یہ کرے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض بھی ہے ، اور اس کو رائج کر دے ۔ ویسے مجھے صوبہ سرحد اور ہر جگہ کا پتہ ہے کہ خرمن سے وہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں ، اور ایک اسلامی مملکت میں زکوٰۃ کی حق دار حکومت ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ بیت المال اور سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہے ۔ تو بجائے زرعی ٹیکس کے یہ زکوٰۃ حکومت سرکاری طور پر وصول کرے اور بیت المال میں آئے ، تو اس طرح لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض عائد ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا ، اور حکومت کو زکوٰۃ بھی ملتی رہے گی ، اور ٹیکس سے بھی چھوٹ مل جائے گی ۔ اب ٹیکس جو ہے وہ سو ایکڑ تک کا جو مالک ہو گا اس کو ادا نہیں کرنا پڑے گا ۔ اور جو ایک سو ایکڑ کا مالک ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا ۔ تو اس میں بھی گنجائش رکھی جائے ۔

جناب والا ! بعض ایسی زمینیں ہیں اور جیسے آپ ہی کا ضلع ہے لکی وغیرہ ۔ وہاں ریت ہی ریت ہے اور جو چار سو جریب زمین کا مالک ہے اس کو کھانے کے لئے خوراک سہیا نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہاں ریت ہی ریت ہے ۔ خصوصاً ایسے علاقوں پر جیسے کہ آپ کا ضلع لکی اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ضلع ہے اور بلوچستان میں بھی ایسے علاقے ہوں گے تو وہاں پروڈیوسنگ یونٹس کی حد جو ہے وہ زیادہ کی جائے تاکہ وہ مالک جو ہیں اپنی روزی کما سکیں ۔

جناب والا ! میں نے گزارش کی ہے کہ ہم زرعی اصلاحات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کے تحت جو رولز بنیں تو ان معروضات اور مشکلات کو سامنے رکھا جائے اور ان کے تدارک کے لئے ان رولز سے مدد کی جائے، اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی جائے کہ اس کے تحت مناسب کارروائی کریں۔ ان معروضات کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

Mr. Kamran Khan : Sir, agriculture is the basis of our economy, and it should be reared from the national interest, and not made a tool for playing politics...

Mr. Chairman : Just a minute, please. I think, we should fix a reasonable time limit for every speaker, because there are so many members, who want to particular in the debate. What would be the reasonable time-limit ?

Mr. Tahir Mohammad Khan : If you first of all determine how many members would like to speak, then perhaps you would be able to fix the time-limit.

Mr. Chairman : First, I would like to fix the time-limit, and then the number of members. Would ten minutes be sufficient ?

Voices : Yes.

Mr. Chairman ; The sense of the House is that each speaker should not take more than 10 minutes. Therefore, the limit is 10 minutes for each speaker.

Yes, Mr. Kamran Khan.

Mr. Kamran Khan : Sir, when the earlier land reforms were introduced, I think, they were not given full consideration, and that is why now it has become necessary to introduce certain other land reforms. First of all, it should have been determined as to what is the economic unit: whether it is 100 acres or 200 acres or 300 acres. Mr. Chairman, everywhere in the world the countries, which have free economy, have large estates; the countries where means of production are under State control there are collective farms. No where it is considered feasible to have fragmentation of land, because fragmentation leads to decrease in productivity of land. At this stage also, I feel that the present Government have not given the land reforms the consideration that they deserved. These land reforms seem to have been introduced in haste, otherwise the Hon'ble Minister for Food and Agriculture should have given us the facts and figures as to how much hundred acres would yield to a person; how much would be the income os 12 acres irrigated land which is going to be allotted to the tenants, and how much land is going to be resumed under this law.

Then, Sir, the constitutional provision under which this law has been introduced, I believe, doesn't provide for taking away property from one person and giving it to another person. Article 253 of the Constitution is quite clear over this.

[Mr. Kamran Khan]

Article 253 says :—

“253. — (1) Parliament may by law—

(a) prescribe the maximum limits as to property or any class thereof which may be owned held, possessed or controlled by any person; and

(b) declare that any trade, business, industry or service specified in such law shall be carried on or owned, to the exclusion, complete or partial, of other persons, by the Federal Government or a Provincial Government, or by a corporation controlled by any such Government.”

Other persons, Sir, can be excluded from that business which is taken over by the State wholly or partially, but the State cannot, wholly or partially be excluded from that business. Here, Sir, land is taken, given to other individuals to the entire exclusion of the State. Sir, Our Government think that they are capable of running industries, capable of looking after banks, insurance companies and all these sort of things. So, I fail to understand why the Government can't manage land instead of donating it to certain people called tenants. Sir, the tenants form a new class which is not the tiller of the soil. A tenant has become a sort of middleman between the tiller of the soil, the workers and the owner, and in certain cases the tenants get much more than either the owner or the actual tiller of the soil. Sir, if at all the Government had the interests of the common, of the tiller of the soil, in mind, the land should have been given to the tiller and not just to a person who happens to be in the revenue record as a tenant. After all that tenant had enjoyed the fruits of that land, the benefits of the land over generations, in certain cases over decades, but there are people, I would say landless people who just work on the farms as hard labourers. They also deserve to be given some land as so to live honestly. I won't call it very decent life, but, at least is tolerable existence. Sir, I will not take much time, but with your permission, I will refer to certain flaws in this Bill. In the definition No. (11) the "Produce index unit" has been defined, I will not repeat the whole thing but I refer :—

(11) . . . “ was determined under the provisions of the repealed Land Reforms Regulation, 1959 . . . ”

Sir, when a law has been repealed, how can we make a reference to that law? That is a repealed law. That has been expunged. That has obliterated. That doesn't exist on the statute book.

Mr. Chairman : What do you mean by that ?

Mr. Kamran Khan : Sir, my objection was that it is a repealed law and that law doesn't exist.

Mr. Chairman : Let me see :

(11) "Produce index unit" means the measure in terms of which the comparative productivity of an area of land of a particular kind in a particular assessment circle or area was computed and expressed for the purpose of the schemes relating to the resettlement of displaced persons on land or was determined under the provisions of the repealed Land Reforms Regulation, 1959 and the Land Reforms Regulation, 1972 and in respect of the assessment circle or area where no such unit was determined, such measure as may be determined by the Commission for the Province within which such assessment circle or area is situate."

Mr. Kamran Khan : Sir, it is a repealed law.

Mr. Chairman : Don't worry about that. They are not going to apply the law which is referred, but they are making a reference. But there is difference between applying the repealed law and making a reference to the definition there.

Mr. Kamran Khan : Now, I will refer Clause 9

Mr. Chairman : If you differ then you can say. I say to apply a repealed law is one thing and that you can't do, but you can refer.

Mr. Kamran Khan : If the Minister has taken note of it ? . .

Mr. Chairman : Well ! it is a legal question that is why Mr. Shehzad Gul, the lawyer, did not raise this objection, because he knew it.

Mr. Kamran Khan : Then, Sir, in clause 9, sub-clause (3) "Vesting in Government of excess land."

9.(3) Any land under litigation which is in excess to the entitlement of a person under this Act, shall vest in the Government subject to the final adjudication of the rights of the litigants.

Mr. Chairman : Where is this ?

Mr. Kamran Khan : This sub-Clause (3) of clause 9.

Mr. Chairman :

9 (3) Any land under litigation which is in excess to the entitlement of a person under this Act, shall vest in the Government subject to the final adjudication of the rights of the litigants.

Mr. Kamran Khan : No. Sir, the land will become a property of the Government, but who is going to bear the cost of litigation ? It has not been decided as yet who is going to bear the cost ? Is the Government

[Mr. Kamran Khan]

going to bear the cost or the original owner or the opposite party or who ?
Now, Sir, another thing with regard to the compensation would be paid....

Mr. Chairman : Your time is also

Mr. Kamran Khan : Sir, just a few things I would like to bring to the notice of the Government, but with your permission.

Mr. Chairman : All right one minute more.

Mr. Kamran Khan : So, compensation is going to be paid in redeemable bonds. The Government has the discretion. On the one hand they say that these bonds would be negotiable, and then they say that these bonds would be negotiable at the discretion of the Government. That means that the negotiability of the bonds has been taken away. No bank would buy such bonds. No banks will accept these bonds as security. Then, Sir, comes the compensation of 5,000 rupees which is going to be paid in cash to them. They don't say when.

It will be paid in cash but when. At least they should have said after five months or six months of the surrender of land. But this action is on the discretion of the Government. Then the last point, Sir, is that religious and charitable trusts have not been exempted from the provisions of this law. That also should have been looked into by the Governments.

Thank you very much.

جناب چیئرمین : قاضی صاحب آپ بولیں گے ؟ حاجی صاحب تو نہیں ہیں -
غلزئی صاحب آپ بول لیں - آپ کے بعد ان کو بھی وقت ملے گا -

جناب محمد ہاشم غلزئی : جناب چیئرمین ! میں اس بل کی تائید کرنے سے نہیں جھجکتا - یہ بل واقعی اصولی طور پر عوام کی بہبود کے لئے لایا گیا ہے - میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں - مگر اس بل میں جتنے نقائص ہیں ان کی طرف میں حکومت کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ عوام کے ساتھ انصاف ہو اور ان قواعد کو حکمران پارٹی اپنے سیاسی اغراض کے لئے استعمال نہ کر سکے -

جناب والا ! ہم مسلمان ہیں اور آپ کو علم ہے کہ زمین خدا کی ملکیت ہوتی ہے - خدا کی ملکیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کی ملکیت ہے - خدا تعالیٰ یہاں پر قرآن شریف میں ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین بندوں کی ملکیت ہے - تو جب بندوں کی ملکیت ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بندوں یا مخلوق خدا میں ، انصاف کو سامنے رکھ کر ، تقسیم کیا جائے - میرے خیال میں انہوں نے یہ جو حد ملکیت رکھی ہے ، سو ایکڑ اور دو سو ایکڑ ،

یہ زیادہ ہے۔ یہ پیس ایکڑ اور پچاس ایکڑ ہونی چاہئے، تاکہ ہر ایک شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس خاصی کی طرف میں اس کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ حد ملکیت کم ہونی چاہئے تھی۔ یہ اب بھی زیادہ ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ۱۹۷۲ء کی زرعی اصلاحات کے زمانے میں حکومت نے زمینیں لیں مگر ان کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ اس بل میں انہوں نے تیس روپے فی ایگریکلچرل یونٹ رکھا ہوا ہے۔ اس لئے میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زمین خدا کی ملکیت ہے، تو عوام کی ملکیت ہے۔ اور اگر کسی سرمایہ دار نے جاہلانہ طور پر اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس سے لے کر عوام میں منصفانہ طور پر تقسیم کرنی چاہئے تھی۔ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان اصلاحات پر پورا عمل نہیں ہوتا اور اس میں دفتر شاہی اکثر غلط طریقے آڑے آتی ہے۔ تو میں حکومت کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بل تو پاس ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس بل کو پاس کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس پر صحیح طور پر عمل کیا جاسکے۔ تیسری اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کی اصلاحات کا اعلان کرنا جب کہ الیکشن آ رہا ہے اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ حکمران پارٹی تقسیم کے وقت ان لوگوں سے زیادہ زمین لے گی جو کہ اس کے خلاف ہیں۔ اور اس زمین کی تقسیم اپنے ہی ارکان میں کرے گی۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ عوام کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے اور ووٹ حاصل کرنے کے لئے، وہ رشوت کے طور پر یہ زمینیں بعض نااہل لوگوں کو بھی دے سکیں گے۔

جناب چیئرمین : اس میں تو صاف طور پر لکھا ہے کٹیوٹینگ ٹینٹ۔

جناب محمد ہاشم خان غازی : میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ ہر ایک ضلع میں جہاں سے زمین حاصل کی جاتی ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زمین اس ضلع کے کٹیوٹینگ ٹلر کو ملے۔ باہر کے کسی آدمی کو نہ ملے تاکہ ان پسماندہ علاقوں کا حق محفوظ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ پٹ فیڈر کی زمینیں، جو بلوچستان میں ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بلا کر انہیں دی جاتی ہیں۔ وہاں پر بھی غریب لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر بھی مسکین رہتے ہیں۔ وہاں پر بھی ٹلر ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس ضلع سے زمین حاصل کی جائے اسی ضلع کے لوگوں، غریب لوگوں، مستحق لوگوں میں تقسیم کی جائے تاکہ کسی علاقے کے لوگوں کو اس بات کی شکایت نہ ہو کہ ہماری زمینیں دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہیں اور مزید برآں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ زمین سیاسی رشوت کے طور پر کسی کو نہ دی جائے۔ جو مستحق لوگ ہیں ان کو دی جائے اصولی طور پر

[Mr. Mohammad Hashim Khan Gilzai]

چاہئے تو یہ تھا کہ اس اہم بل کو پبلک کی رائے معلوم کرنے کے لئے پبلک کے پاس بھیج دیا جاتا۔ مگر جلدی جلدی سے پیش کرتے ہوئے ہم وقت تھوڑا ہونے کے باعث اور میجرٹی کی وجہ سے جو بہت سی ترامیم لانا چاہتے تھے ہمیں انہیں لانے کا موقعہ نہیں مل سکا۔ ہمیں اتنا موقعہ وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں ملا کہ اس میں ترامیم پیش کر سکتے اور اس پر غور کر سکتے۔ بہر حال بحیثیت مجموعی ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور ان باتوں کی طرف جو میں نے عرض کی ہیں، حکومت کی توجہ سبذول کرانا چاہتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ان خامیوں کو اس بل سے دور کر دیا جائے گا۔

جناب چیئرمین : قاضی فیض الحق -

قاضی فیض الحق : جناب چیئرمین! پانچ جنوری ۱۹۷۷ء کو قائدعوام جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تاریخی اعلان کیا اور وہ آج، اس بل کی صورت میں، اس معزز ایوان میں زیر غور ہے۔ اس سے ایک طرف تو غریب کسانوں اور مزدوروں کو ایک نئی زندگی اور خوشحال مستقبل کی خوشخبری ملی ہے۔ اور دوسری طرف یہ انقلابی اور اقدام جاگیردارانہ نظام کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو گا۔ ہمیں فخر ہے کہ آج جب عوام کی قسمت بدلنے والا بل اس ایوان کے سامنے موجود ہے بحث کے لئے تو ہم بھی پیپلز پارٹی کے ایک ادنیٰ کارکن کی حیثیت سے اس بحث میں شریک ہیں۔ یقیناً اس تاریخ ساز فیصلے اور انقلابی قدم کا سہرا قائدعوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سر بندھتا ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ تمام دارومدار قائد پر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ خوش قسمتی سے اگر کسی ملک یا قوم کو بے لوث اور مخلص قائد حاصل ہو جائے تو اس ملک اور قوم کی قسمت بدل جاتی ہے۔ بعینہ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں اپنی تقریر کے دوران، فارسی کی ایک ضرب المثل عرض کی تھی کہ اگر حاکم وقت عوام کے باغ میں سے ایک سیب بھی توڑے، تو نچلے حاکم اس سیب کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ تو اس ضرب المثل کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام تاریخی اقدامات، ہمیں بے لوث اور مخلص قائد ملنے کی وجہ سے، کئے گئے۔ یہاں بہت عرصے کے بعد ایک ایسا بے لوث اور مخلص قائد جس نے اپنی جائیداد، اپنی دولت اور اپنی جاگیر کو اقتدار میں آنے کے بعد بڑھایا نہیں بلکہ باپ دادا سے ورثے میں ملی ہوئی زمینوں، دولت اور جاگیروں کو عوام پر قربان کر دیا۔

یہ قیادت کی تاریخ کی ایسی روشن مثال قائم کر دی ہے جس سے اس کا بڑے

سے بڑا مخالف انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پانچ سالہ دور کے مختصر عرصہ میں جتنی بھی اصلاحات کیں مثلاً زرعی اصلاحات - تعلیمی اصلاحات لیبر اصلاحات - انتظامی اصلاحات اور دیگر اصلاحات کے مجموعی نتیجے میں پاکستان کے معاشرہ کو استحصال سے پاک کرنے کی طرف اقدام ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پانچ سال کے دور میں اور وعدے اس نے اپنے منشور میں کئے تھے۔ ان سے زیادہ کیا ہے جو اس کے منشور میں نہیں تھے زرعی اصلاحات کی گئیں تو بلوچستان میں سرکاری نظام آڑے آیا قائد عوام نے جب محسوس کیا کہ ظالمانہ نظام کے ہوتے ہوئے بھی اصلاحات نافذ نہیں ہو سکتیں تو اس وقت تک عوام کی حالت سدھر نہیں سکتی۔ اس نے بڑا جرأت مندانہ اور انقلابی قدم اٹھایا اور سرکاری نظام کو یکسر ختم کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے علاوہ وہ قدم جو پاکستان کے عوام کو دئے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا ہے اسی طرح میرے دوست شہزاد گل صاحب نے منشور کی بات کی ہے۔ ہمارے منشور میں یہ تھا میں کہتا ہوں کہ منشور میں تمام سیاسی جماعتوں کے وعدے درج ہوتے ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پورا کرے لیکن یہ توفیق پاکستان پیپلز پارٹی کو عطا ہوئی اس نے اپنے منشور کے مطابق ان کو پورا کیا

(تالیاں)

جناب چیئرمین! بلوچستان میں قائد اعظم نے ۵ سال پہلے بلوچستان کو صوبائی خود مختاری کا درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کی حکومتیں رہیں ان کو یہ توفیق عطا نہ ہوئی کیونکہ ان کے دل میں عوام کا درد نہ تھا۔ قائد عوام نے وہ مطالبہ پورا کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بلوچستان میں برسراقتدار آنے کے بعد صوبے کو حکومت عطا کی۔ بلوچستان کے عوام ان اصلاحات کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صدیوں کا ششک عائد تھا۔ مالیہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس زرعی اصلاحات کے بل کی وجہ سے سرکاری ٹیکس سے پہلے چھٹ چکے ہیں۔ اور اب مالیہ ۲۵ ایکڑ نہری اور ۵۰ ایکڑ بارانی تک معاف کر دیا۔ انشاء اللہ ہونے والے الیکشن بتائیں گے کہ بلوچستان کے عوام کے دلوں میں قائد عوام کی کس قدر و منزلت ہے۔ جس نے بلوچستان کے عوام کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دیا۔

جناب چیئرمین: مسٹر نرگس زمان کیانی۔

جناب نرگس زمان خان کیانی: جناب چیئرمین! آج کے دن سینیٹ کے لئے مبارک دن ہے۔ اور یہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ کہ وہ آج عظیم ترین اصلاحات کا جو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے۔ تین بلوں کی شکل میں زیر غور ہے۔ اور جن اصلاحات کا فائدہ ملک کے ۹۵ فیصد عوام کو پہنچے گا اور ۹۵ فی صد عوام جس کا سہارا

[Mr. Nargis Zaman Khan Kiani]

دیہاتوں میں زراعت پر ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہاں محنت کر کے وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ وہ اپنے ملک پاکستان کے لئے محنت کرتے ہیں۔ جو اپنی ذات اور بچوں کے لئے کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین! یہاں بھی یہ ذکر ہوا ہے۔ کہ شاید ان اصلاحات کو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ سیاسی طور پر ایوب خان کے دور میں الیکشن ہوا تھا الیکشن سے پہلے جو بی ڈی کے نظام پر مشتمل تھا۔ مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان کے ۸۰ ہزار ممبران تھے۔ الیکشن سے پہلے تمام ممبران کو بند لفافے میں ۵ ہزار کا چیک بھیجا گیا تھا۔ اس لئے بھیجا گیا تھا کیونکہ الیکشن کی بات تھی۔ فقط سیاسی مفاد حاصل ہونا تھا۔ الیکشن کے بعد وہ چیک لے کر متعلقہ بنکوں میں گئے تو وہاں سے انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ یہ عوامی حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ قائدعوام نے کل کی تقریر میں صاف صاف کہا دیا ہے کہ آئندہ کے لئے جب ہم عوام کے پاس جائیں گے تو ان کی مرضی ہے۔ کہ وہ دوبارہ خدمت کا موقع دیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جو وعدے الیکشن سے پہلے کئے تھے انہیں اس بات پر فخر ہے۔ کہ ہم نے وہ یکے بعد دیگرے پورے کئے اور ان کا اس ملک کو فائدہ پہنچا۔

جناب چیئرمین! جہاں تک زمین کا تعلق ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ مزارع طبقہ۔ مڈل کلاس۔ زمین کے ساتھ ہیں ان میں دو طبقوں کا تعلق ہے۔ مالک کا اور مزارع کا۔ مالک سے مراد ان کی اپنی ملکیت تھی، مزارع سے مراد جو اس زمین کا سینہ چیر کر ملک کے لئے پیداوار مہیا کرتا تھا۔ ان اصلاحات سے ان مزارعین کو فائدہ پہنچے گا۔ جن کا پیشہ جو زمین پر کاشت کرتے تھے اب یہ ان کی اپنی ہے۔ جناب چیئرمین! جہاں تک انکم ٹیکس کا تعلق ہے۔ اس کے متعلق کل جناب وزیر اعظم نے نیشنل اسمبلی میں یقین دہانی کرا دی ہے۔ کہ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی۔ وہ ٹیکس جن لوگوں پر واجب ہو گا۔ وہ ان کو ادا کرنا پڑے گا تو میں اس بل کی حمایت کرتا ہوں اور جناب قائد عوام کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بے کس لوگوں کے لئے اتنی بڑی اصلاحات کیں، جس کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ شکریہ۔

Mr. Chairman : Yes, Haji Sahib.

Haji Nimatullah Khan : Mr. Chairman, Sir, while supporting the Bill, I hail the agrarian reforms announced by Prime Minister Bhutto for the second time during his first term of office, bringing down individual holdings from 36,000 Produce Index Units to 8,000 Produce Index Units for the betterment of tillers and peasants and for the betterment of the children and families of the country. By doing so, the People's Government under the able leadership of Quaid-e-Awam

Mr. Chairman : Are you reading out a written speech ?

Haji Nimatullah Khan : No, Sir. These are just points.

Mr. Chairman : Don't say 'No Sir. You are really reading out. Don't say 'No Sir'. You are reading it out and everybody sees it. You know that you are reading it out. You can refer your speech, by way of notes but you can't read out actually.

Haji Nimatullah Khan : Yes, Sir. By doing so the People's Government under the able guidance of Prime Minister Bhutto have served and brought equal distribution of national wealth and social justice which is a vital issue of the Ideology of Pakistan.

Ch. Mohammad Aslam : Point of order, Sir.

Mr. Chairman : Yes, there is a point of order by Chaudhry Mohammad Aslam.

Yes, please !

چوہدری محمد اسلم : جناب والا ! ممبران کی درخواست ہے کہ حاجی صاحب اردو میں تقریر کریں۔ اگر وہ مان جائیں تو سب لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔

جناب چیئرمین : قومی زبان اردو ہے۔ کیوں نہیں؟ حاجی صاحب ! اگر آپ ان کی درخواست مان لیں تو یہ کہتے ہیں کہ قومی زبان میں تقریر کریں۔

حاجی نعمت اللہ خان : بہت اچھا جی۔ جناب والا ! اس ڈیکاریشن کی وجوہات بالکل نمایاں ہیں۔ کیونکہ ہمارے قائد عوام چاہتے ہیں کہ غریب عوام، ٹلرز اور کاشتکار خوش حال ہوں اور ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہو اور زیادہ پروڈکٹو ہو۔ اس کے علاوہ اس بل میں ۲۵ ایکڑ اریگیٹڈ اراضی اور ۵۰ ایکڑ بارانی زمین کے ہولڈنگ والے جو مالک ہیں، ان کو زرعی انکم ٹیکس سے آزاد کر دیا ہے۔ جو کہ چھوٹے کاشتکاروں کے لئے بڑی خوش آئند اور بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ محترم شہزاد گل صاحب کے جواب میں کہ فیئر الیکشن ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بار بار کئی دفعہ فرمایا ہے کہ یہ الیکشن بالکل فیئر اور درست ہوں گے اور ان میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی، میرے خیال میں پرائم منسٹر کے اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ پیپلز گورنمنٹ آئین کے مطابق الیکشن ملتوی بھی کر سکتی تھی۔ لیکن وہ چاہتی ہے کہ عوام سے فریش مینڈیٹ لے لے۔ اور جو کام عوامی حکومت نے کئے ہیں، اپنے منشور اور وعدے کے مطابق تمام چیزیں مکمل کر لی ہیں اور عوام بالکل بیدار ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کون ہمارے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی الیکشن

[Haji Nimatullah Khan]

جیتے گی - میں اپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ مستقبل کے الیکشن میں حصہ لے، اور مثبت طریقے سے تعاون کر کے اسلامک آرڈر لانے میں مدد کرے - پرائم منسٹر بھٹو صاحب کا جمعہ کو ہالی ڈے مقرر کرنا بڑا خوش آئندہ اور قابل مبارکباد قدم ہے - اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی اسلامک آرڈر کی طرف بڑا اہم کام ہے - میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں -

Mr. Chairmau : Thank you. Now, Mr. Leghari !

Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari : Mr. Chairman, Sir, I deem it a privilege to have been afforded an opportunity to take part in the debate on the Land Reforms Bill, 1977. It is a privilege for me because even though I am one of those persons who have been affected by these land reforms yet I feel that this land reform is of an historic nature and that it will play a very important role in establishing a just economic and social order in our country.

Mr. Chairman, our party, Pakistan People's Party, right from the day of its birth has been in quest for the establishment of an egalitarian society in Pakistan. From the day of the British we inherited a system which was unjust, in many ways in many sectors and the agrarian sector was one such sector. Even though sporadic attempts were made by previous regimes to introduce a measure of reform yet those attempts were either not fully supported by those in power or they were ill-conceived or they were not really meant to reform the society. Sir, it was only after the introduction of our party in power that serious attempts were made to correct the situation. In early 1972 through Martial Law Regulation No. 115, we had the first affective and serious land reforms. Prior to that, through Martial Law Regulation No. 64 in 1959, the Military Regime of Ayub Khan had also introduced a land reform. Before that in the Punjab during the days of the Ministry of Mr. Daultana certain reforms were introduced but as I said earlier these reforms barely touched the periphery. They did not provide any serious readjustment in our agrarian sector. But the reforms of 1972, that is through MLR 115 for the first time drastically reduced the maximum ceiling that an individual owner could possess from 36,000 Produce Index Units to 12,000 and in the case of progressive farmers, who had tractors and tubewells to 14,000 Produce Index Units. Now this ceiling has been reduced from 14,000 to 8,000 Produce Index Units through the new Bill that is before us. The measures have been taken by our regime to correct the situation, to create a new equilibrium in our society and to usher in an era of peace and harmony between the tillers of the social and the owners of the land ; this is an era that is sought to be ushered in and it has been done through a series of reforms starting from the 1972 reforms as the honourable Minister for Agriculture has explained here in the House briefly and also at length in the National Assembly.

The reforms introduced by our regime are varied and they cover practically the entire agrarian sector. They include such reforms as those announced through the Peasants Charter. They include the rights given to the sitting tenants. They include the rights of pre-option given to the tenants. They also include reduction in the ceilings.

Sir, I do not wish to take much time of the House. I will make my brief speech certainly within the limit of 10 minutes prescribed by you. But I would like to say a few things regarding the reforms that have been introduced. Firstly, there is a misunderstanding and an apprehension in the minds of the Opposition that those reforms have been introduced merely to win votes in the election, and secondly, that the uncertainty that prevailed in the agrarian sector still continues to do so. Sir, I would very strongly urge them to read the reforms, to read the Bill properly, because in my humble view the state of uncertainty has now been done away with. It is precisely for this reason that these reforms were introduced before the elections instead of making it an election issue which would raise emotional issues also other than those related to land reforms. The entire issue has been settled for good and, as the Prime Minister in his speech mentioned, this is really a point we would like to say proudly that the system of 'jagirdari' which had no relevance to the needs of our Society that system is now buried for good. For this, I as a member of the party and as a citizen of Pakistan, must congratulate the Prime Minister for giving such an able guidance and for effecting these reforms by stages and at appropriate times so that the least hardships would be caused and so that a maximum number of people, the tillers of the soil, would benefit.

Sir, certain objections have been raised although, by and large, yet the Opposition has supported this Bill. It is a welcome sign that they have at least seen good in the efforts being made by the Government to create the situation.

Sir, Mr. Shahzad Gul has mentioned that N.D.P.'s manifesto says that they in their manifesto have also provision for drastic reduction of the ceiling under land reforms, and so on and so forth, Sir, I would merely remark that the manifesto of N. D. P. as well as the manifesto of all the political parties, do contain this provision but this thing was merely confined to their manifesto. When the predecessor of NDP, the N. A. P. got an opportunity to form the Government, they did as little for the land reforms as they did for the abolition of the Sardari System.

Then, Sir, Senator Kamran Khan talked of tenants being petty zamindars, or a third group within the set up of the agrarian system. I am surprised, because this is a new definition of tenants that he has introduced and really I do not understand fully what he means by that. The tenants is, certainly, not a middle man. The tenant is the one who cultivates the land. And if there is anyone else then he is not a middleman. He is called lease holder. So, there is a certain amount of confusion. Then again he talks of 'wakf' and charitable institutions not being covered by this Bill. Sir, if you will read the provisions of this Bill, and I would also refer him to, section 17 charitable trusts, wakfs and educational institutions and religious wakfs, have all been covered under sub-section (b) of section 17. On the floor of the National Assembly too, the Minister for Education on behalf of the Government made this categorical statement that wakfs are covered by this Bill.

With these remarks, Sir, I would thank you very much for giving me this opportunity once again to congratulate our Government and specifically the Prime Minister for having introduced such a necessary enactment at such an appropriate time.....

.....Thank you.

Mr. Chairman : Thank you very much.....

(Pause)

Mr. Chairman : Before I give floor to some other gentleman, I would like to fix the time limit for the completion of the first and second reading stages. Let us fix a deadline by which the first and the second readings are to be completed. I think there are no amendments.

(No reply)

Mr. Chairman : Am I correct ?

Voices : No amendments.

Mr. Chairman : All right. No amendments. So, I think we should complete the first and second readings by quarter to one. Then, there is a suggestion by some gentlemen that we should have a tea-break also, and we reassemble at 1.10 when we will continue with the third reading. Am I clear ?

(No reply)

Mr. Chairman : So, we complete the first and second readings by quarter to one and then we break for tea. Then we re-assemble at 1.10 when we start with the third and final reading of the Bill. Do you agree, gentlemen ?

Voices : Yes Sir.

(At this stage Malik Mohammad Akhtar, the Minister for Law & Parliamentary Affairs, enters the House.)

Mr. Chairman : Mr. Law Minister, I have suggested that we should complete the first and second readings by quarter to one.

Malik Mohammad Akhtar : Let it be twelve thirty Sir.

Mr. Chairman : Listen to me ; twelve-forty-five and then there should be tea break, and then we assemble at ten past one. You will have twenty-five minutes almost half an hour. If you want to complete it by twelve-thirty, I have no objection to that but many members want to be able to talk on that. So on the understanding that you are agreeing that we should complete the first and second readings by twelve-forty-five, the first-reading should be over by twelve-thirty.

Malik Mohammad Akhtar : All right. Let it be twelve-thirty .

Mr. Chairman : All right. The first reading to be completed by twelve-thirty. Who wants to speak ? Yes, Mr. Shaikh Mohammed Umer Khan.

میرے خیال میں وقت کی حد ۸ منٹ ٹھیک ہے۔

شیخ محمد عمر خان : کچھ ایسے ممبر بھی ہیں جو اس سے بھی کم وقت لیں گے۔

جناب چیئرمین : ۸ منٹ ٹھیک ہیں۔ ابھی کافی ممبر باقی ہیں۔

شیخ محمد عمر خان : جناب والا ! میں محترم وزیر اعظم صاحب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ عوامی حکومت نے عوام کے لئے جس طریقے سے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت خود ہی یہ بتا دے گا۔ ہمارے قائد نے جب سے اس ملک کی عنان حکومت سنبھالی ہے اب تک عوام کی ضروریات کو مناسب سمجھتے ہوئے اور جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں، ان پر جب عمل درآمد کا وقت آتا ہے وہ بلا جھجک ان اصلاحات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔

جناب والا ! میں ان صاحبان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں جنہوں نے زرعی اصلاحات میں نمایاں امداد کی ہے، اور عوام کی ضروریات کو دیکھا۔ خاص طور پر محترم وزیر زراعت نے، جنہوں نے بلوچستان میں پٹ فیڈر کے علاقے میں ۵ لاکھ ایکڑ زمین دوسرے علاقوں میں، جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں ان میں تقسیم کر دی۔ جن کے پاس زیادہ زمینیں تھیں ان سے لے کر مستحق افراد میں تقسیم کر دیں۔

جناب والا ! جیسا کہ ہمارے حزب اختلاف کے ایک حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ ایک سیاسی اعلان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جب ضرورت ہوتی ہے اور جو ملک کا تقاضا ہوتا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے قائد عوام نے جو کچھ کیا ہے وہ مناسب وقت پر کیا ہے۔ اور کامران صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر زمین کی حد ۲۵ ایکڑ بھی کر دی جائے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کئی زمینیں دو دو سو اور تین تین سو ایکڑ بارانی ہیں، اور ان کی آمدنی ایک انسان کی کفالت بھی نہیں کرتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دس سال تک بارش نہیں ہوتی ہے تو ان حالات کو بھی حکومت کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ ایسی زمینوں سے کچھ تو وصول ہو اور یہ سب کچھ ہم عوام کی بہتری اور خدمت کے لئے کر رہے ہیں۔ بہر حال یہ ایک خدمت نہیں ہے جو قائد عوام نے اس ملک کے عوام کے لئے کی ہے اور ہماری پارٹی اور ہمارے منشور میں جو کچھ کہا گیا تھا، اور جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اور ہمیں خوشی ہے۔ میں اس بل کی ہر زور حمایت کرتا ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : شیر محمد خان -

جناب شیر محمد خان : جناب چیئرمین صاحب ! اس وقت اس ہاؤس میں لینڈ ریفارم بل ۱۹۷۷ زیر غور ہے - اور اسی طرح اس ہاؤس میں عوامی حکومت نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ، جو اچھے اور کارآمد قوانین بنائے ان میں سے آج جو قانون اس ہاؤس میں زیر بحث ہے ، اس کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے - اور یہ تاریخی اہمیت کا حاصل بل اس وقت اس ہاؤس میں پیش ہے اور اس پر غور ہو رہا ہے - میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بل پر بولنے کے لئے وقت دیا - جناب والا ! جب سے انسان زمین پر آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس زمین کی ملکیت اور زمین کی ملکیت سے محروم کرنے کا سلسلہ دنیا بھر کے لئے جھگڑے فساد کا موجب بنا رہا ہے - اور جناب ذوالفقار بھٹو نے ۱۹۷۲ء میں زرعی اصلاحات کے ذریعے زمین کی ملکیت کی حد کم سے کم ۱۵۰ ایکڑ نہری مقرر کی - اور اب اس بل کے تحت ڈیرہ سو ایکڑ سے گھٹا کر اس کی حد سو ایکڑ نہری رکھی ہے اور اس سے اس ملک کے ان غریب لوگوں کو بہت فائدہ ہو گا - جن کے ہاتھوں سے زمین آباد ہوتی رہی ہے ، اور جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں - جناب والا ! ہمارے علاقے میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو زمین کے مالک ہوتے ہیں اور جن کو ہم خان کے نام سے پکارتے ہیں - - - -

(اس مرحلے پر جناب ڈپٹی چیئرمین کرسی صدارت پر متمکن ہوئے)

جناب شیر محمد خان : جناب والا ! میں عرض کر رہا تھا کہ پورے پاکستان میں زمین کے مالکوں کے کئی نام ہیں - لیکن ہمارے علاقے میں زمین کے مالکوں کو عام طور پر خوانین کہا جاتا ہے اور وہ اسی نام سے مشہور ہیں کہ فلاں خان کی اتنی زمین ہے اور فلاں کی اتنی زمین ہے کسی نے ایک خان سے پوچھا کہ تمہاری کتنی زمین ہے - تو اس نے کہا کہ جہاں تک میرے بندوق کی گولی جاتی ہے وہاں تک میری زمین ہے - دوسرے خان سے پوچھا کہ تمہاری کتنی زمین ہے اس نے کہا کہ میری زمین پر تین سو فقیر آباد ہیں ہمیں تو ”لفظ فقیر“ کہ میری زمین پر تین سو فقیر آباد ہیں تو فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ”بابا ! میں بھوک سے مر چلا ہوں مجھے کھانے کے لئے کچھ دو“ یا جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے - تو ہمارے یہاں خان لوگ جس کو فقیر کہتے ہیں وہ زمین میں کسی مارتا ہے ، زمین میں بوائی کرتا ہے ، زمین کو پانی دیتا ہے ، زمین پر ہل چلاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے - لیکن جو خان ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے - تو جس نے اس زمین پر سب کچھ کیا اور جس کا نام فقیر رکھا ہے یہ فقیر سب کچھ کر کے ، زمین سے چاول ، گندم ، جوار اور کئی اقسام کی چیزیں پیدا کر کے اس خان کے گودام یا سٹور میں لے آتا

ہے اور کہتا ہے کہ ”خان صاحب! آپ کی زمین میں نے جو آباد کی تھی اس میں سے اتنا آپ کا حصہ ہے“۔ تو خان صاحب کو فقیر کی طرف سے حصہ مل رہا ہے۔ فقیر کو خان صاحب کی طرف سے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن نام جو ہے وہ الٹ رکھا ہے۔ اور خان صاحب اس کو فقیر کے نام سے پکارتا ہے لیکن وہ فقیر اپنی محنت اور مشقت سے اس زمین سے پیدا کر کے خان صاحب کے گھر میں لے آتا ہے اور اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ وہ اس لئے کہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے اس کے پاس بندوق نہیں ہے اس لئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جہاں تک میری بندوق کی گولی جاتی ہے وہاں تک میری زمین کی ملکیت ہے۔

لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ملک اور قوم سے جو وعدے کئے تھے وہ آج پورے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ ایک وعدہ کہ ۱۹۷۲ کی اصلاحات کے بعد میں اس ملک کے منتخب اداروں سے بھی قانون کے ذریعے اصلاحات کراؤں گا، تو وہ زرعی اصلاحات اس وقت اس ہاؤس میں پیش ہیں، جس میں زمین کی حد پہلے سے گھٹا کر ایک سو ایکڑ نہری اور دو سو ایکڑ بارانی کر دی گئی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ میں اس پر اپنے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو مبارک باد دیتا ہوں اور یہ پیپلز پارٹی کے لئے ایک اچھا شگون ہے۔ اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں عام لوگوں کی بہلائی کے لئے کہا تھا۔ جناب والا! اس ضمن میں جناب شیخ صاحب کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا اپنا قرض سمجھتا ہوں کہ جہاں ان اصلاحات سے فائدے ہوئے ہیں وہاں ان اصلاحات سے دیر، سوات اور چترال کے غریب لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور پچاس ہزار گھرانوں کو لینڈ ریفرم کے فیصلوں کے مطابق والیان ریاست اور جو سردار تھے ان سے زمینیں ہیں اور چترال میں ان کی مخصوص جائیدادوں ہیں ان کو زمینیں ملی ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ ان پر آباد کار مزارعین کون ہیں اور ان آباد کار مزارعین کا کتنا حق ہے اور دوسرا سب سے اہم بات حکومت کو یہ دیکھنی چاہئے کہ مالاکنڈ میں ان زمینوں کی پیمائش نہیں ہوئی اور آج بھی سوات میں وہاں پٹواری لوگ جا کر بڑے خوانیں کی زمینوں کی پیمائش نہیں کرتے ہیں۔ اور اس پیمائش کی وجہ سے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں آپ ہمارے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس خان نے اتنی زمین کس طریقے سے حاصل کی۔ کیونکہ پاکستان میں جو لوگ انگریزوں کے وفا دار تھے ان کو جاگیریں ملیں۔ اور ہمارے علاقے میں جس نے انگریز کے ایجنٹ کے ساتھ وفاداری کی اس کو حق مل گیا کہ ہر غریب آدمی زمین پر قبضہ کر لے۔ اور سوات میں پہلے کوئی آدمی نہیں تھا جس کی زمین ایک کے مقابلے میں دوسرے سے زیادہ ہو اور جو زمین پختونوں میں تقسیم ہوئی وہ مساوی تقسیم ہوئی ہے اور یہ جو آج سوشلزم کے تحت تقسیم ہو رہی ہے یہ اس کی ڈیولپمنٹ

[Mr. Sher Mohammad Khan]

سٹیج ہے۔ لینڈ ریفرم کے تحت جو تقسیم ہوئی وہ اس کی ڈیویلپنگ سٹیج ہے اور اس خان کے ساتھ دوسرے خان کے مقابلے میں زمین بہت زیادہ نہیں تھی اور ان لوگوں کو جو انگریز کے ایجنٹ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے سے کمزور آدمی، جس کے پاس رائفل نہیں تھی، ان کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ اور اس پر ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے تو خان نے کہا کہ کیونکہ تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے اس لئے فلاں زمین میری ہو گئی۔ اور آج تک ایسے غصب کی ہوئی زمینیں موجود ہیں۔ جب پٹواری نام لکھے گا تو خان کا ہی لکھے گا۔ اس غریب آدمی کا نام نہیں آئے گا۔ میں شیخ صاحب سے درد مندانه اور غریبوں کے نام پر گزارش کروں گا کہ ان اصلاحات کی روشنی میں ان غریبوں کو، ان کی زمینیں، ان غاصب خانوں سے لے کر واپس دلائی جائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ شیخ صاحب انہیں ان کی زمینیں واپس دلانے کی کوشش کریں گے۔

ان الفاظ کے ساتھ جناب والا! میں اس بل کی پر زور تائید کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے مفاد میں سب سے اچھا قانون ہے اس قانون کی وجہ سے زمین کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور میری دعا ہے کہ یہ قوم اور ملک تمام تر جھگڑوں کو چھوڑ کر جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر رہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : سنیٹر افضل خان کہوسو۔ ان کے بعد سنیٹر انصاری۔

Mr. Afzal Khan Khoso : Mr. Chairman, the basic object of this Bill, as we all understand, in the equitable and fair distribution of wealth. All the reforms, that have been brought by the Pakistan Peoples' Party, have this supreme national objective in view. Whether we take the labour reforms, or we take the educational reforms, or we take the land reforms, or we take the taxation reforms, the only consideration before the Pakistan People Party and its leadership has been, that should be fair, just and equitable distribution of wealth, and the disparity which existed before in the incomes should be removed as far as possible. This particular Bill of 1977 will go a long way towards removing that disparity which exists. There was a land reform brought in 1972 which aimed at the same objective, and it did remove the disparities to a large extent but we are in a process of change.

Sir, society is never stagnant. It only becomes stagnant when there is no change, and when there is no change, there are no reforms. Whenever we have revolutionary reforms there is bound to be a change. So, change generates further change. After 1972, there were changes which generated the tempo for further changes which we are seeing in the shape of the present Bill. People like myself, the landed class, when joined the Pakistan Peoples Party, knew that they would be hit by these reforms; or the reforms coming in future. We were not oblivious

of this fact but, of course, the basic object and consideration as to why we can into this fold was that we also wanted such reforms even at our own cost. As Senator Farooq Ahmad Khan Leghari said, and I also belong to that class, we have been hit by the present law but it is, as they say, for the highest good of the highest number. This is the basic aim and objective under the circumstances, and the objective conditions prevailing in our rural society. When the Pakistan People Party took over the reins of this Government we all knew what were the conditions and what were the crisis that we were going through at that particular moment and thereafter. Now, when a ship is sinking the Captain of the ship thinks of only one thing, or when a plane is crashing the Pilot of the plane thinks of one thing, that is, survival. Nobody thinks at that time that we are going to polish up this ship, or that we are bringing changes in the interior, or that we are creating certain better opportunities for the people employed in the ship. For that matter, it is a question of survival but, at the same time, I think, it is a great step that has been taken by our leadership in the Pakistan People Party. It was not the main consideration that since we were trying to survive we should leave all the reforms but while we were striving to survive we also made certain progress in the form of bringing reforms in all spheres of public and political life.

No, Sir, I come to certain provisions of the Bill. The land holding has been brought down to 800 units or 100 acres of irrigated and 200 acres of unirrigated land. At the same time we are trying to create one thing, that is, a new social order. It is the endeavour of our Prime Minister that there should be a new international economic order. So, we start with a national economic order by bringing a new national economic order which will, of course, automatically result a new social order.

Another commendable thing is that, in the previous land reforms one remedy was not provided; that is, compensation to those who had to lose their lands. In this particular Bill compensation has been provided and this, I think, is not only socialism but Islamic Socialism in its true sense. A still more commendable thing is that for the larger good and benefit of the 90% or so people of this country, the lands so resumed will be distributed to them free of cost. On the one hand the Government has to pay the cost of the resumed land to the owners, of course that is just and proper, and on the other hand the Government is going to give all these lands to the tillers, to the tenants, free of cost. Another thing is that to avoid fragmentation, the Government has provided in this Bill a clause by which choice has been given so that lands belonging to a particular family, which they have to surrender, could easily be exchanged in block so as to create, as less fragmentation as is possible.

With regard to the tax reforms, because they are also part of the discussion, I will briefly say that it is a commendable job that has been done by the People Government. As I said earlier, I would call this period of five years of the Peoples Government as a period of reformation in all spheres of public life. The present Bill will go long way towards the much needed requirements of those whom we can call the have-nots and, at the same time, it is not going to be unjust or unfair, or for that matter disastrous, for those from when the land is going to be taken away. So, both these objectives have been kept in view. While the Peoples Government is going to keep the majority in view, at the same this Bill does not go against the interest of those landed classes to the extent that

[Mr. Afzal Khan Khoso]

it should put them out of business. This is what is called equitable distribution of wealth, this is called removing of disparities and this is what is called bringing in a just, fair and social order.

Thank you very much.

جناب عبدالطیف انصاری : جناب چیئرمین ! پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے عوام کے سامنے محض وعدے کئے اور کسی بھی حکومت نے ان وعدوں کا پاس نہیں رکھا۔ وہ وعدوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکیں۔ جناب چیئرمین ! اس ملک کو بابائے قوم قائد اعظم نے بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ بہت جلد ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور انہوں نے ملک کی بہتری اور اصلاح کے لئے جو احکامات و فرمودات دیئے ان پر عمل نہ ہو سکا۔ ان کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ان احکامات کے اوپر عمل نہ کیا۔ بلکہ ملک کے اندر جتنی بھی پارلیمنٹس آئیں اور جتنے حضرات بھی ان کے ممبر بنے، وہ اسی کلاس سے تعلق رکھتے تھے جس کے متعلق یہ بل آج ہمارے سامنے بحث کے لئے موجود ہے۔ وہ فیوڈل لارڈز جن کی وہ کنسٹیٹیوٹوٹائز نسل در نسل چلتی تھیں، اپنے ان ہی ذرائع اور اپنی ان ہی جاگیروں سے ہمارے ملک کے لوگوں کا استحصال کرتے رہے۔ اور انتخابات کے دوران محض وعدے کرتے تھے کہ اگر ہمیں ووٹ ملے تو ہم یہ اصلاحات نافذ کریں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پیشتر کسی بھی حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے عوام کی واقعی بہتری ہوئی ہو۔ اسی طرح تاریخ گواہ رہے گی ! اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ قائد عوام نے جتنی بھی باتیں، جتنے بھی مسئلے، اپنی پارٹی کے منشور میں لکھے، اور جو وعدے عوام کے سامنے کئے، ان کو اس قلیل سے عرصے میں پورا کر کے دکھایا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کے دوستوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے۔ ان کا جواب میرے دوست دے چکے ہیں۔ ایک بات جو کہ قائد حزب اختلاف محمد ہاشم غلڑی نے کہی ہے، میں اسے کے متعلق عرض کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بل کو رائے عامہ معلوم کرنے کے لئے مشہر کیا جائے۔ جناب چیئرمین ! ہمارے ملک کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں۔ وہ برائیاں باہر کے لوگ آ کر نہیں کرتے۔ برائیاں کرنے والے بھی ملک کے اندر بستے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، اگر اور کوئی گھپلا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ملک کے لوگ ہی کرتے ہیں اس لئے ہم، ہماری حکومت اور قائد عوام نہیں چاہتے کہ اس کو رائے عامہ معلوم کرنے کے لئے مشہر کریں۔ کیونکہ اگر ہم اس کو مشہر کرتے تو

ہمارے ہی ملک کے لوگ اس میں گھپلا بازی کرتے - یہی وجہ تھی کہ اس کو خفیہ رکھا گیا اور آرڈیننس کے ذریعے اس بل کو نافذ کیا گیا - اور قائد عوام نے اپنی تاریخی تقریر میں اس بات کا اعلان کیا جو ۲۲ تاریخ کو ہوئی تھی - اور یہ قوم کے سامنے ہی ہیں جو کہ زرعی اصلاحات ہوئی ہیں - میں عرض کروں گا کہ اگر حزب اختلاف کی بات مان لی جائے تو بہت سارے لوگ گھپلا بازی کرتے اور اپنے کھائے تبدیل کر دیتے - اس قسم کے کئی کیسز متعلقہ وزیر صاحب کے سامنے ہیں - اور میں ان کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت ہی سادہ ہیں - اور وہ اپنے جاگیرداروں کے احسانات کے بدلے میں یوں کرتے ہیں کہ زمینیں تو ان کے نام کر دی جاتی ہیں ، لیکن اصل مالک پھر بھی وہی جاگیردار ہوتے ہیں اور کاغذوں میں نام تو ان بیچارے سادہ مزارعوں کا ہوتا ہے ، لیکن اصل مالک وہ جاگیردار ہی ہوتا ہے اور وہی اس کی آمدنی بھی وصول کرتا ہے - ہمیں اس ملک سے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے - اس سلسلے میں ہمیں وزیر صاحب پر ہورا ہورا اعتماد ہے اور انہوں نے کئی ایک اقدامات اٹھائے بھی ہیں - میں ان سے اس بات کی بھی گزارش کروں گا کہ سختی کے ساتھ دیکھا جائے کہ جو اصلاحات ہوئی ہیں - ان پر سختی سے عمل درآمد ہو ، تا کہ غریب لوگوں کو ان اصلاحات کے فوائد حاصل ہوں اور ان کو ان کے حقوق ملیں - میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عوامی حکومت نے ، قائد عوام نے کیا ہے - اس سے پہلے نہ کسی جماعت نے ایسا کیا ہے نہ کر سکتی تھی - یہ محض بہانے ہیں - محض باتیں ہیں - میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیوں کہ اس بل کے اوپر میرے دوستوں نے کافی روشنی ڈالی ہے ، اور اس سے پہلے قائد عوام اور ہمارے وزیر صاحب بھی تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں - میں صرف ان گزارشات کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ یہ تاریخی اعلان یہ تاریخی اصلاحات قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے ہیں - جو کہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے اور ان سے اس ملک کے غریب عوام کی فلاح و بہبود ہو گی - ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی پر زور تائید کرتا ہوں -

Mr. Deputy Chairman : Malik Mohammad Sharif.

(At this stage Mr. Qamruz Zaman Shah rises in his seat)

Mr. Qamruz Zaman Shah : Sir, I hope I would get a chance. I got up for the fifth time.

Mr. Deputy Chairman : In my presence this is your first time. It is not.

جناب شہزاد گل : میں گزارش کروں گا کہ جن دوستوں کی چار سال کی مدت

ختم ہو رہی ہے انہیں تقریر کرنے کا موقع دیا جائے -

جناب ڈپٹی چیئرمین : کوئی سینیٹر بھی نہیں رہے گا سب کو تقریر کرنے کا موقع ملے گا۔ ملک شریف کے بعد چوہدری اسلم تقریر کریں گے۔

ملک محمد شریف : جناب ڈپٹی چیئرمین ! کچھ دیر قبل اس معزز ایوان میں جناب شیخ محمد رشید صاحب ، وزیر زراعت نے یہ بل پیش کیا اور جس تفصیل سے انہوں نے اس کا پس منظر پیش کیا ہے ، اس پر مزید کچھ کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ اس معزز ایوان کے معزز ممبران نے بھی کافی تفصیل سے اس پر تقریریں کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ریپیمینٹیشن نہ ہو۔ بہر حال میں اس ایوان کی اور آپ کی اجازت سے اس ایوان کے چند منٹ لوں گا۔ اور اپنے خیالات کا اظہار مختصراً کروں گا۔

جناب چیئرمین ! ہر فرد و بشر پر عیاں ہے کہ اس ملک کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے۔ زراعت کا تعلق ، زراعت پیشہ لوگوں سے ہے۔ اور اس ملک کی کثیر آبادی جو کہ تقریباً میں یہ عرض کروں گا کہ ۸۰ فیصد زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ اور زمین کی کاشت وہ ہاری اور مزارعہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے زمینوں کے مالک ایک جاگیردارانہ نظام جو کہ انگریزوں کے زمانے میں رائج کیا گیا تھا۔ اور مسلسل کچھ عرصے سے اس ملک میں کئی حکومتیں آئیں جنہوں نے بہت لمبے چوڑے دعوے کئے لیکن اس طرف کسی حکومت نے کوئی خیال نہ کیا۔ موجودہ حکومت نے دوران الیکشن جو وعدے منشور میں کئے تھے ، اور دوران الیکشن آمریت کے دور میں جو وعدے عوام سے کئے گئے تھے ، وہ تو پورے نہ ہوئے لیکن ہم نے ان وعدوں کو پورا کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر بہاری قیادت نے اور بھی بنیادی کام کئے۔ کسی حزب اختلاف کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ ہم پر نکتہ چینی کرتے کہ جو وعدے کئے تھے ان سے انحراف کیا ہے اور ہم نے ان کو پورا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ سب نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا ہو گا جو لوگ خالصاً دل سے اور خلوص دل سے اس کی تائید کر رہے تھے ، آپ کو معلوم وہی لوگ اس بل سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے ان کو پتہ ہے کہ جو قیادت کام کر رہی ہے اور جو کرتی ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے۔ اسی لئے ایک آدمی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے کپڑے بھی اتار لئے جائیں تو ہم اپنی قیادت کے لئے ، اس کے لئے بھی تیار ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی قیادت ، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساتھ سوچ ، تصور اور تدبیر کے دی ہے۔ اور یہ تعریف کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ جناب چیئرمین ! ایسی قیادتیں خوش قسمت لوگوں ہی کو ماتی ہیں۔ اور وہی قومیں ایسی قیادتوں سے عروج حاصل کرتی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو قیادت ملی ہے انشاء اللہ وہ

پاکستان کو منظر عام پر لا رہی ہے۔ جس کا حسین خواب اور تصور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ اب وہ سامنے آ رہا ہے۔ میں ان مختصر الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ

جناب ڈپٹی چیئرمین : چوہدری محمد اسلم اور ان کے بعد سید قمر الزمان شاہ صاحب تقریر کریں گے۔

راؤ عبدالستار : جناب والا ! اس کے بعد دو منٹ مجھے بھی مزاحمت فرمائیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی وقت بڑا ہوا ہے۔

چوہدری محمد اسلم : جناب چیئرمین ! جیسا کہ ہمارے ملک کے سابقہ حالات اور واقعات شاید ہیں اور ہمارے فاضل دوستوں نے اس کی بہت اچھے الفاظ میں وضاحت کی ہے۔ کہ پاکستان بننے پر مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوتی رہی۔ وہی طاقتور حکومت تھی۔ اس کے بعد کچھ انہی لوگوں پر مشتمل ری پبلکن حکومت تھی۔ پھر فوج رہی اور فوج سے ملتا جلتا نظام، ایوب خان کی قیادت میں سرمایہ دار، جاگیردار پر مشتمل اس ملک پر مسلط رہا، اور اس وقت بھی یہ نہیں کہہ ان اقدامات کی ضرورت نہیں تھی، یا سوچ نہیں تھی، یا یہ اقدامات ناممکن تھے۔ اگر نہیں کیونکہ میرے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ان ادوار میں حکومتیں اور لیڈر ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اور میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو اپنا مفاد عزیز تھا۔ اور انہیں اپنا اقتدار، یا اپنی ذات اور اقربا نوازی عزیز تھی۔ یا یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لیڈر تھے، وہ مخلص نہیں تھے۔ اور ان کو صحیح مشورہ دیتے تھے۔ یا وہ ایسے اقدامات کریں گے کہ ان ساتھیوں کی چھوڑ جائیں یا بغاوت کر دیں۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اور ان کے ساتھیوں کی اور قیادت کی کمزوری تھی۔ جو بھی صورت حال تھی میں یہ سمجھتا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں کہ یہ بات بغیر کسی سطوت کے نصیب ہوتی۔ اور میں اس بل کی کھل کر وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور حمایت کرتا ہوں کہ اس بل کا نفاذ ایسے لوگوں پر ہو گا جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اور یہ فخر صرف قائد عوام اور ہماری پارٹی کو حاصل ہوا ہے۔ اور جو خامیاں اور کمزوریاں اس قیادت میں تھیں وہ تمام قوم پر ثابت ہو گئی ہیں، اور ان میں سے بہت کمزوریوں پر قابو پا چکے ہیں۔ اگر قائد عوام کے ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں، اور جو باہر ہیں اور پارٹی کے ورکر ہیں، چاہے ممبران ہیں اور چاہے وزراء، جو بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ جانا ہے۔ اور یہ قائد عوام کی قیادت سے وابستہ ہیں۔ کون سوچ سکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظام جن میں باہر

[Ch Mohammad Aslam]

کے لوگ بھی شامل ہیں، ایسی آس یہاں لگائے بیٹھے تھے اور کوئی لیڈر اتنا جرأت مندانه قدم اٹھا سکتا تھا جس سے اس کو خود کو بھی نقصان ہوتا ہو اور اپنا اقتدار خطرے میں پڑتا ہو زندگی خطرے میں پڑتی ہو اور کئی ایک خطرات ممکن ہوں، جن کی تفصیل میں، میں قلت وقت کی وجہ سے، جانا نہیں چاہتا۔ یہ سعادت قائد عوام کو حاصل ہوئی ہے۔ اس میں جرأت تھی اور ملک کی بہتری اور ایمان داری پر یقین تھا۔ منصفانہ تقسیم سے بہارا ملک اب ترقی کر سکتا ہے، اور یہ قدم بہر صورت اٹھانا چاہیے تھا۔ اس سے بہت اچھے نتائج نکالیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی تبدیلیاں ہیں اور حزب اختلاف کے چند دوستوں نے ان اصلاحات کو منظور کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ اچھی اصلاحات ہیں۔ لغاری صاحب اور کھوسو صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کی صداقت اور کیا ہو سکتی ہے جس کو حزب اختلاف صحیح سمجھتی ہے؟ اور جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان اقدامات کی تائید کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدامات قائد عوام نے کیئے ہیں، ان کی صداقت پر یہ ایک مہر ہے۔

جناب چیئرمین! ہمارے ملک کی پچاسی فیصد آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ اور یہ کتنے ستم کی بات ہے کہ چھ فیصد آبادی لینڈ لارڈ پر مشتمل ہے۔ یہ ۱۹۷۰ء کے اعداد و شمار ہیں۔ وہ اسی فیصد زمین پر قابض تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چھ فیصد لوگ جو ہمارے وسائل پر قبضہ کئے ہوئے تھے، ایسے حالات کی موجودگی میں کوئی بھی ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟

اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، طاقتور ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے اور دنیا میں مقام حاصل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے تمام کے تمام عوام، جو اس کے باشندے اور شہری ہیں، وہ طاقت ور ہوں۔ ان سب کو ان کے حقوق ملیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریفارمز ہوئی ہیں، سن ۷۲ء میں اور اس کے بعد جو جو اقدامات ہوئے ہیں، کسانوں کی بہتری کے لئے منشور آیا ہے، اب یہ ریفارمز ہوئی ہیں، یہ تمام اقدامات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نہیں ہیں۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہماری قیادت اٹھا رہی ہے، غریب عوام کی بہتری کی طرف، اور جو اصل حقدار ہیں، ان کے حقوق ان کی طرف لوٹانے کے لئے ہماری حکومت کر رہی ہے۔ جناب چیئرمین! واقعات ایسے تھے۔۔۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: آپ اپنی تقریر کانکلوڈ کیجئے۔ وقت ہو رہا ہے۔

چوہدری محمد اسلم: شکریہ۔ جناب چیئرمین! میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اصلاحات، جو ہوئی ہیں، ہر لحاظ سے مفید ہیں، ملک اور قوم کے لئے۔ اس لئے کہ

اس سے بہاری زرعی معیشت مضبوط ہوگی اور جو actual tiller of the soil ہے ، وہ مضبوط ہوگا ، اور اگر وہ مضبوط ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک مضبوط ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں قائد عوام کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتا ہوں ، حکومت کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے دوستوں کی طرف سے ، اپنے ہاؤس کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ان اقدامات کی تائید کی۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ۔ قمر الزمان خاں تقریر کریں گے اور اس کے بعد مسٹر صاحب وائینڈ اپ کریں گے۔

مس آصفہ فاروقی : میں بھی تقریر کرنا چاہتی ہوں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اب تو وقت نہیں رہا۔ جو شیڈول ہمارے پاس وقت کا تھا ، اس لحاظ سے ہمارے پاس باقی وقت نہیں ہے۔ آپ تشریف رکھئے۔ پس ، مسٹر قمر الزمان شاہ۔

Mr. Qamaruz Zaman Shah : Sir, I will try to cut it short as much as I can. That is why I have been requesting and I knew that it will happen.

Mr. Deputy Chairman : You can speak as much as you like within those ten minutes.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, we will not break for tea. So the time does not permit that.

Mr. Deputy Chairman : Let us listen to the speeches first and then we will go for the Second Reading.

Mr. Qamaruz Zaman Shah : Mr. Chairman, Sir, this Bill. . .

(Interruptions)

Mr. Deputy Chairman : Yes Mr. Qamaruz Zaman Shah.

Mr. Qamaruz Zaman Shah : Sir, extra speeches had to be concluded before I start.

Mr. Deputy Chairman : You make your speech.

Mr. Qamaruz Zaman Shah : Sir, this is yet another revolutionary step of the present Government. This is yet another very daring and very dynamic step of the Peoples Government. This is yet another fulfilment, or I would say, another step towards the fulfilment of the promises made to the people, Sir, this Bill and Land Reforms really go a long way to fulfil the basic aims that any land reforms envisage under a responsible government which feels itself responsible to the people. As our Prime Minister said the first and the foremost aim in view should be to increase over all national production, and in increasing the overall

[Mr. Qamaruz Zaman Shah]

national production, we have also to see that the tillers of the soil get their due. And according to our party's Manifesto we are also committed to the re-distribution of wealth.

Keeping these ends in view, the Land Reforms were brought in 1972. I would be failing in my duty if I say that the Land Reforms of 1972 did not bring in any effect, did not improve the condition of the tillers of the soil or did not increase the overall production. It did. As my friend Mr. Shahzad Gul has said that the state of uncertainty should be brought to a complete end. I would, Sir, divide his state of uncertainty into two parts. If by 'state of uncertainty' he means a state of confusion, then the state of confusion has been brought to a stand still. But if by state of uncertainty, he means that the course of history should be stopped then that will not be stopped, cannot be stopped. History move on. The circumstances go on changing. The reforms would keep on coming and in that way, Sir, this is not the end. It is very easy to say that the eight thousand produce index unit is less or as the Leader of the Opposition mentioned that it should have been twenty five acres. Sir, keeping in view the overall national production, we have also to see that the atmosphere is really suitable for any further fragmentation. The co-operative farming scheme is still at its very inception. We want that the land should be further mechanised. We want that the modern methods be used and provided. One of the biggest incentive that has been given by the 2nd Bill which is not under discussion here before us, was that the people should have lot of incentive in mechanising agriculture, in using modern methods, in investing in agriculture and treating agriculture as industry. Agriculture is not a land, it is not just sucking the blood of the land.

Sir, these days after the ceilings have been really reduced to an economic level, if my friend Mr. Kamran Khan feels that the economic level has not been determined, I will only inform him that the economic level today has been determined to 100 acres of irrigated and two hundred acres of unirrigated holding. But the economic holding of today may not be treated as the economic holding for tomorrow after a subsequent machinery has been brought in, after a machinery to replace the fragmented system has been brought in because, Sir, you know it fully well that we have many people still landless. Those landless people are making a mad rush from the rural areas to the urban areas, because the labour is more expensive in the urban areas. The result is that since that have no attachment in the rural areas; since they do not own any properties in the areas, since they are not sure about their future, they rush up to the urban areas. Sir, the result of this is that today in the Agricultural areas of Sind, at last I would say, there is shortage of agricultural labour. I would even say that there is shortage of the people to till the soil, and in order to supplement that shortage, we will have to do mechanization. Now how much mechanization could possibly be done is really dependent on how much agricultural machinery we can import. In that, Sir, I would make a very humble submission and request the Government to be very liberal in the import and making available the agricultural machinery so that we can increase the production.

Sir, coming to the taxation part, the Government has very very judiciously said, that peoples' holding of 25 acres should not be taxable.

Sir, my humble submission is that while framing the rules or while considering them, if it is found feasible, I would request that the Government may make the first 25 acres as free from income tax upto the ceiling of 50 acres, because that has not been put in on Produce Index Unit basis, and this kind of concession has been given only on the basis of acreage; you are fully aware, Sir that the yield per acre in different areas varies tremendously and that is the same opinion which was voiced in this House that there are certain areas where you may have 200 acres, but where you hardly get anything to make both ends meet. Therefore, my humble submission would be that while framing the rules or at the time of any further consideration at least upto a level of 50 acres, the people holding 50 acres and below the first 25 acres should be made tax free.

Sir, I think I better come to a conclusion though I had quite a few other suggestions to make. Finally, I would welcome the Bill and would say that ever since the 1972 Reforms if anybody thinks that people in the rural areas or the agricultural community of Pakistan does not know what their rights are, or are not vocal, or they are still being exploited, that will be his sad mistake. Thank you.

Mr. Deputy Chairman : Thank you.

Senator Miss Asifa Farooqi.

مس آصفہ فاروقی : جناب والا! آپ کی بڑی سہربانی - - - ورنہ اس ہاؤس میں ہمیشہ میری آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے -

جناب ڈپٹی چیئر مین : نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے -

مس آصفہ فاروقی : جب سے میں آئی ہوں - - - -

جناب ڈپٹی چیئر مین : نہیں، میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے آپ نے پہلے تقریر کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی ہے - میں نے پورا ریکارڈ چیک کیا ہے - اب آپ کو تقریر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے -

مس آصفہ فاروقی : جناب چیئر مین آج ہم نہ صرف لیجسٹیو ورک ہی کر رہے ہیں بلکہ ایک نیک اور متبرک فریضہ کو بھی سر انجام دے رہے ہیں - پارلیمانی زندگی میں ایسے دن کبھی کبھار آتے ہیں جب کہ ایسے تاریخ بل منظور کئے جاتے ہیں - برطانوی پارلیمنٹ کو چھوڑ کر جتنے ممالک میں پارلیمانی نظام رائج ہے ان میں سے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے جتنے اہم بل منظور کئے ہیں شاید اتنے کسی نے ابھی نہیں کئے ہوں اور جن کی افادیت آج ہمارے سامنے ہے -

جناب والا! لینڈ ریفارمز کے ذریعے وہ جاگیریں لی گئی ہیں جو کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں ان جاگیرداروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے ہم وطنوں سے غداری کے صلے میں ملی تھیں - جناب والا! ان جاگیروں کے سر پر، ان کی بناء پر، یہ خود

[Miss Asifa Farooqi]

اور ان کی کھانڈری اولاد بڑی بڑی ملازمتیں حاصل کر لیا کرتے تھے اور اسمبلیوں میں بھی پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب کہ ایک غریب اور اس کا بیٹا بیٹی جو قابلیت لیاقت، علم، ذہانت اور ایسی دوسری خوبیوں کا حامل ہوا کرتا تھا اس کو موقع نہیں ملتا تھا۔ کیونکہ وہ ان جاگیروں کی شکل کی سیاسی طاقت نہ ہونے کی بناء پر پیچھے رہ جایا کرتے تھے اور اعلیٰ ملازمتوں کے لئے، اسمبلی یا پارلیمنٹ کی رکنیت کے لئے یہی جاگیردار یا ان کے بیٹے یا بیٹیاں ہی اہل سمجھی جایا کرتی تھیں۔ مگر ہمارے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے امیر اور غریب، ظالم اور مظلوم کے فرق کو ختم کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آکر ان میں کسی قسم کا فرق نہیں رہنے دیں گے اور انہوں نے برسر اقتدار آکر یہ وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔

جناب والا، میں عرض کرتی ہوں کہ اس لینڈ ریفارمز سے چھوٹا زمیندار جو ہے اس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا، کیونکہ چھوٹے زمیندار کا ہی استحصال ہو رہا تھا۔ جناب والا! سب سے بڑا ظلم تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کام کرنے والے کو تو ”کمی“ کہہ کر بلایا جاتا تھا اور جو کام نہیں کرتے تھے، ان کو معزز کہا جاتا تھا اور عزت کا مقام حاصل تھا ان کی جاگیریں واپس لے لینے کے بعد ان کی سیاسی طاقت بھی ختم ہو جائے گی جو کہ اس طاقت ان کے ہاتھ میں تھی۔ شکریہ۔ جناب والا! جہاں تک لینڈ ریونیو کی معافی کا تعلق ہے شیر شاہ سوری۔۔۔

Malik Mohammad Akhtar : I am on a point of order. She has been altogether irrelevant.

جاگیرداری بہت پہلے ختم ہو چکی ہے۔

I do not know what she is talking about, nothing about the Bill,

جناب ڈپٹی چیئر مین : وہ جاگیرداری کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں۔ وہ جاگیرداری کے جملے کو کنڈیم کر کے اصل بل پر آ رہی ہیں۔

مس آصفہ فاروقی : میں بل پر ہی بول رہی ہوں، ارریلیونٹ نہیں ہوں دوسرے ممبران نے بھی اسی قسم کی تقاریر کی ہیں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ارریلیونٹ ہوں تو آپ بھی ارریلیونٹ ہوں۔

مس آصفہ فاروقی : جناب والا! جہاں تک لینڈ ریونیو کا تعلق ہے یہ شیر شاہ سوری اور ٹوڈرسل کے دور حکومت میں تو وقعت رکھتا تھا لیکن آج کے زمانے میں

جب کہ ذرائع آمدن بڑھ گئے ہیں خاص کر زمینوں سے آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہاری حکومت نے ایک نہایت اچھا کام کیا ہے کہ زمینداروں پر انکم ٹیکس اگا دیا ہے اور لینڈ ریونیو ختم کیا گیا ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ ایک سنٹ خاموش رہیں۔ پہلے ملک اختر صاحب اپنی تقریر کر لیں۔

(ملک اختر صاحب سے مخاطب ہو کر جو کہ اپنی سیٹ پر اٹھنے ہوئے کسی دوسرے معزز ممبر سے باتیں کر رہے تھے) آپ کھڑے ہو کر تقریر کر لیں پہلے۔

(ملک اختر صاحب کے نہ اٹھنے پر) اچھا ٹھیک ہے لاء سنسٹر نے تقریر نہیں کر لی ہے، یس مس آصفہ۔

مس آصفہ فاروقی : جناب چیئرمین! جہاں تک لینڈ ریونیو کا تعلق ہے اس کو معاف کر دیا ہے اور اس سے چھوٹے زمینداروں کو فائدہ ہوا ہے اور ہر حکومت کا وہ اقدام قابل تحسین ہوتا ہے جس سے کہ اکثریت کو فائدہ ہو۔ اکثریت چوں کہ چھوٹے کاشتکاروں اور چھوٹے زمینداروں کی ہے اور ان زرعی اصلاحات سے ان کو فائدہ پہنچے گا تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ بہاری حکومت کا یہ قابل ستائش قدم ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہاری حکومت اس ملک کے غریبوں، کسانوں، مزدوروں، کی فلاح و بہبود کے لئے ایک اسلامی جمہوری اور سوشلسٹ معاشرہ قائم کرے گی اور مزید اصلاحات کرے گی انشاء اللہ۔

Mr. Deputy Chairman : Yes, Leader of the House. Do you want to speak? You can speak in the third reading if you like.

راؤ عبدالستار : آج ایک تاریخ ساز قانون اس معزز ہاؤس میں زیر بحث ہے۔ اس سے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے اور بہاری آئی والی نسلیں دیکھیں گی کہ قائد عوام، ہمارے محبوب رہنما چیئرمین بھٹو نے، جس منزل کی نشاندہی کی تھی، وہ پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار کے بعد حاصل کی گئی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے۔ جناب والا! یہ حکومت کا جو اقدام ہے وہ سوشلزم کی طرف ایک قدم ہے۔ اس سے وہ معاشرہ پیدا ہو گا جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا۔ اس اقدام سے، اس ملک میں مساوات قائم کرنے میں مدد ملے گی، اور معاشی ناہمواری کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ ہمیں ملک سے افلاس اور غربت دور کرنی چاہئے۔ جناب والا اس بل کے پاس ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس میں جمہوریت فروغ پائے گی، اور سماجی انصاف جو ہے وہ بروئے کار آئے گا۔

[Rao Abdul Sattar]

یہ ملک مضبوط ہو گا مستحکم ہو گا اور اس مقصد کی تکمیل ہو گی جس کے لئے پیپلز پارٹی معرض وجود میں آئی تھی -

جناب والا ! اس اقدام سے جو اصلاحات رونما ہوں گی اس کے لئے میں اپنے قائد کا شکر گزار ہوں کہ حکومت نے اس ایوان کو جو بل دیئے تھے اور اس ایوان نے پاس کئے ہیں اس کے لئے میں اپنے وزیر زراعت کا بے حد مشکور ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس منزل پر ہم جلد پہنچ جائیں - شکریہ

Mr. Deputy Chairman :

Thank you very much. I thank the members for their elaborate speeches made today. I also thank the Federal Minister for Food, Agriculture and Cooperatives. I would not like to conclude the debate.

Shaikh Mohammad Rashid : I will just make my submission in the third reading.

Mr. Deputy Chairman : Now I put the question. The question before the House is that the motion be adopted.

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : We have not received any amendments in the Bill. So there is no amendment in any of the clauses. Therefore, I put all the Clauses together.

The question before the House is that Clauses 2 to 35, both inclusive, form part of the Bill.

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : Clauses 2 to 35, both inclusive, form part of the Bill.

Now the question before the House is that Short Title, Preamble and Clause 1 form part of the Bill.

Now No. 6, Shaikh Mohammad Rashid.

Shaikh Mohammad Rashid : Sir, I beg to move.

“That the Bill to provide for further land reforms [The Land Reforms Bill, 1977], be passed.”

Mr. Deputy Chairman : The motion is :

“That the Bill to provide for further land reforms [The Land Reforms Bill, 1977], be passed.”

[Mr. Shahzad Gul]

کھیت مزدور کے نام پر کی جائے سزاع کے نام پر نہ کی جائے کیونکہ وہ بے زمین ہوتا ہے اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ -

جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی

دہقان اس کھیت میں کام کرتا ہے لیکن اس کو روزی میسر نہیں ہوتی ، تو اب جو الاٹمنٹ ہو وہ اس کے نام پر کی جائے -

جناب والا ! دوسری بات یہ ہے اور جس طرح میرے دوست قمر الزمان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا ہے اور میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ٹیکس میں جو چھوٹ دی جا رہی ہے پچاس ایکڑ تک تو بعض جگہ ایسی بھی زمینیں ہیں جو سو سو ایکڑ ہیں لیکن اس میں سے بمشکل لوگوں کا گذارا ہوتا ہے اور ٹیکس میں چھوٹ دینے کے پروویژن کا اس میں ذکر نہیں ہے - - - - -

Shaikh Mohammad Rashid : The question is that that Bill is not under consideration. The Bill which is for the exemption of land revenue and for income tax is not under consideration. He should confine himself to this Bill.

Mr. Chairman : That is a separate legislation, so far as law imposing income tax instead of land revenue is concerned. That has been passed. You confine your remarks and speech to the present Bill which is being discussed.

جناب شہزاد گل : جناب والا ! اس بل کے تحت رول بنیں گے تو رول میں اس قسم کا کوئی پروویژن رکھا جائے تاکہ یہ زرعی ٹیکس میں جو چھوٹ ہے اس میں پچیس اور پچاس ایکڑ پروڈیوس یونٹس آجائیں گے تو بعض علاقے جو بارانی ہیں اور وہاں کاشت کم ہوتی ہے ، تو وہاں پروڈیوس یونٹس زیادہ رکھنے چاہئیں اور ان زیادہ رقبے پر ٹیکس کی چھوٹ ملنی چاہئے تو رول میں اس قسم کا پروویژن رکھنا چاہئے - پھر جناب والا ! معاوضے کی ادائیگی کا جو تعین کیا جائے گا یعنی پانچ ہزار کم از کم معاوضہ کا تعین کیا جائے گا اور وہ مالکوں کو دیا جائے گا تو وہ کتنی مدت میں دیا جائے اس کے لئے بھی اس بل میں کوئی معیاد نہیں ہے تو اس کے لئے بھی رول میں کوئی معیاد پروویژن لایا جائے کہ دو سال یا تین سال تک کی معیاد میں معاوضہ دیا جائے گا - کیونکہ پانچ ہزار سے زیادہ معاوضے کے لئے تو ہے کہ وہ ۱۹۸۷ تک ادا کیا جائے گا لیکن پانچ ہزار تک کوئی معیاد مقرر نہیں ہے تو رول میں اس کے لئے کوئی پروویژن لایا جائے - اور ہم نے بل کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ بل کا خیر مقدم کیا ہے -

Mr. Chairman : Thank you very much. . Would you like to wind up.

Shaikh Mohammad Rashid : Only for 5 minutes Sir.

Mr. Chairman : Yes.

Shaikh Mohammad Rashid : I will not take more than that.

جناب والا ! مجھے بڑی خوشی ہے کہ حزب اختلاف کے معزز ارکان نے بھی اس بل کی تائید فرمائی ہے ۔ ایک دو چیزوں کے بارے میں میرے خیال میں انہیں غلط فہمی ہوئی ہے ۔ میرا فرض ہے کہ میں اس غلط فہمی کو دور کروں ۔ ۔ ۔ ۔

شہزاد گل صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسے ٹیننٹ کو جو مالک بھی ہے ، زمین نہ دی جائے ۔ یہ بات پہلے ہی اس میں بھی موجود ہے ۔ اگر شہزاد گل صاحب اس بل کی کلاز ۱۵ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر درج ہے ۔

Clause 15, sub-clause 2 :

“Where any tenant who is entitled to grant of land under sub-section (1) already owns land, he shall be granted only so much land which together with the land already owned by him, does not exceed twelve acres.”

ایسے لوگ جن کے پاس پہلے ہی زمین موجود ہے ان کو اتنی ہی زمین دی جائے گی جس سے کہ ان کی زمین بارہ ایکڑ ہو جائے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد گل صاحب کو اب مطمئن ہو جانا چاہیئے کیونکہ یہ زمین مالکوں کے لئے نہیں ہے ۔ جن کی زمین بارہ ایکڑ سے زیادہ ہے ان کو اس حد تک ہی زمین ملے گی کہ جس سے ان کی زمین بارہ ایکڑ ہو جائے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کے جواب دیئے جاچکے ہیں ۔ اس لئے میں معزز ایوان کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ۔ صرف ایک چیز کے متعلق وضاحت کروں گا ۔ میرے دوست قائد حزب اختلاف اور شہزاد گل صاحب نے فرمایا ہے کہ زمین کی حد پچیس اور پچاس ایکڑ ہونی چاہئے ۔ جناب والا ! نیپ کے منشور میں زمین کی حد ۱۰ ہزار یونٹ تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آجائیں تو زمین کی حد ۱۰ ہزار یونٹ مقرر کریں گے ۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ سستی شہرت والا معاملہ ہے ۔ خود تو یہ فرماتے ہیں کہ ۱۰ ہزار یونٹ حد ملکیت رکھیں گے اور جب یہ بل پیش ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پچیس اور پچاس کر دیں ۔ اب اگر یہ ایسا چاہتے ہیں تو یہ چیز انہوں نے اپنے منشور میں کیوں نہ رکھی ۔ اب یہ بات ان کے منہ پر سجتی نہیں ہے ۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم اسے سیاسی طور پر استعمال کریں گے ۔ جناب والا ! میں پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ پہلے جو زرعی اصلاحات

[Sheikh Mohammad Rashid]

ہوئی تھیں ، ان کے متعلق ان میں سے کوئی ایک ہمیں ایک مثال بتا دے کہ ہم نے حزب اختلاف کے کسی شخص کو ویکٹیز کیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہی لوگوں کو زمین دی جائے جن کا تعلق اس ضلع سے ہو۔ جناب والا ! ضلع کی بات تو بہت دور ہے ، یہاں تو اسی گاؤں اور چک والوں کو زمینیں ملیں گی کیونکہ یہ بات قانون میں موجود ہے ، جو ٹینٹ آ کوپائی کرتا ہے اسے ملے گی۔ میرے دوست شیر محمد صاحب نے غصب شدہ زمینوں کے متعلق فرمایا ہے ان کو علم ہونا چاہیے کہ جو زمینیں سوات یا دیر میں تقسیم ہو چکی ہیں ان کے بعد جو زمین بچے گی اس پر اس قانون کا اطلاق ہو گا۔ اگر اس کے بعد کسی کے پاس ۱۵ ایکڑ زمین ہے تو اس کے پاس سو ایکڑ زمین چھوڑی جائے گی۔ میں اس ایوان کا اس بل کی تائید کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میری گزارش ہے کہ اس بل کو پاس کیا جائے۔

Mr. Chairman : Thank you very much, Thank you. I will put the question.

The question before the House is :

“That the Bill to provide for further land reforms [The land Reforms Bill, 1977], be passed.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The Bill stands passed unanimously.

Now, yes Malik Sahib you move your next. It is a brief Bill, I think.

**THE TRANSFER OF EVACUEE LAND (KATCHI ABADI)
(AMENDMENT) BILL, 1977**

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I beg to move :

“That the Bill to amend the Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) Act, 1972 [The Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Chairman : Yes, the motion moved is :

“That the Bill to amend the Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) Act, 1972 [The Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

(Pause)

Malik Mohammad Akhtar : Motion is not opposed. It may be put straightway, Sir. It is a simple Bill.

Mr. Chairman : Well, it is not opposed, I put the question. The question before the House is :

“That the Bill to amend the Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) Act, 1972 [The Transfer of Evacuee Land (Katchi Abadi) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Now, the motion is carried and we take up clause by clause reading of the Bill. Now the question before the House is :

“That Clause (2) forms part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clause (2) forms part of the Bill.

Next the question before the House is :

“That Clause (3) form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clause (3) forms part of the Bill.

The next question.

The question before the House is :

“That Preamble, Short Title and Clause 1 forms part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Preamble, Short Title and Clause 1 form part of the Bill.

There is no other business to transact. We will be now adjourning. We do not know when we are meeting next. As you know, the elections are coming. They are very near at hand, but will still live for some time more. Before we adjourn, I consider it my duty to express my deep gratitude to all sections of this House, each Member individually, the Treasury Benches as well as the opposition Benches for their having extended willing co-operation to me throughout. This is my feeling, I may be wrong or right. You can judge it for yourselves. But it is my feeling that by and large this House has conducted itself in very orderly and dignified manner. Our performance is one of which we can brightly

[Mr. Chairman]

proud. During the last four years, as you know, I have never been compelled to stretch hands towards my right to the hammer because of your co-operation and your support. I feel, and I am dead sure that you already supported the Chair in maintaining the decorum also in the House. I am really thankful to you gentlemen. The credit goes to all, each and every Member of this House. In the end, I again thank you from the core of my heart for the co-operation and support you have already extended to me. Thank you.

(The Senate then adjourned sine die)

PROROGATION

[*The Senate was prorogued by President of Pakistan from 8th Jan. 1977*]
